

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْقَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

الْمَغْرِبِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَ

لے اللہ! میں ہنہا لیتا ہوں تیری بخل سے اور

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَ أَعُوذُ بِكَ

ہنہا لیتا ہوں میں تیری بزوری سے اور ہنہا لیتا ہوں میں تیری

مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ وَ

اس سے کہ لوٹایا جاؤں میں ناکارہ عمر کی طرف اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا (أَيِ فِتْنَةِ

ہنہا لیتا ہوں میں تیری دنیا کے فتنے سے (یعنی لوگوں کے

الرِّجَالِ) وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

فتنے سے اور ہنہا لیتا ہوں میں تیری قبر کے عذاب سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ

لے اللہ! میں ہنہا لیتا ہوں تیری بخل سے

وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَ أَعُوذُ بِكَ

اور ہنہا لیتا ہوں تیری بزوری سے اور ہنہا لیتا ہوں میں تیری

مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ وَ

اس سے کہ لوٹایا جاؤں میں ناکارہ عمر کی طرف اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ

ہنہا لیتا ہوں میں تیری دنیا کے فتنے سے اور قبر کے

الْقَبْرِ

۱ بار

عذاب سے

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 یعنی اللہ سے تیری
 ہے کہ حضرت سیدنا محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم اور
 کتب کی تمام احادیث سے
 پانچ چیزوں سے ہنہا لیتا ہوں
 اللہم انی اعوذ بک من
 الجبن البخل والعموم
 بخاری شریف صفحہ ۲۹۸
 شمارہ ۱۲۸
 علی حضرت ابو دقاس رضی اللہ
 عنہما میں کہ حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم میں: القائل لیسیکھایا
 کہنے سے علی وآن شریف
 (کی آیتیں) استعاذتے ہیں
 اللہم انی اعوذ بک من
 بخاری شریف صفحہ ۱۳۰
 عن ابو دقاس رضی اللہ

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْحَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بَعْدَهُ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا مُجِبُّ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ إِيِّنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں

الْهَمِّ وَالْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

غم اور کاہلی اور عذاب قبر سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِيِّنِي أَعُوذُ بِكَ

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں

مِنْ فَتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ

قبر کے فتنے اور

فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ

دجال کے فتنے اور

فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

زندگی اور موت کے فتنے

وَمِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ

اور جہنم کی گرمی سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِيِّنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ

اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں تیری در ماندگی سے اور

الْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ

سستی سے اور بزدلی سے اور بڑھاپے سے اور پناہ لیتا ہوں تیری

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

قبر کے عذاب سے اور پناہ لیتا ہوں تیری

فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

زندگی اور موت کے فتنے سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِيِّنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ

اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں تیری در ماندگی سے اور

الْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ

سستی سے اور بزدلی سے اور بڑھاپے سے اور پناہ لیتا ہوں تیری

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

قبر کے عذاب سے اور پناہ لیتا ہوں تیری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین کی وہ فرمایا کہ اللہم ایئنی اعوذ بک من فتنۃ القبر... الخ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی کہ میں تم سے اللہم ایئنی اعوذ بک من العجز والکسل الخ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو فرمایا: اللهم ایئنی اعوذ بک من العجز والکسل الخ

حضرت سلم بن اکیبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے تم سے سنا ہے کہ جب تم نے نماز کی تو فرمائی: اللهم ایئنی اعوذ بک من العجز والکسل الخ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تم سے سنا ہے کہ جب تم نے نماز کی تو فرمائی: اللهم ایئنی اعوذ بک من العجز والکسل الخ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تم سے سنا ہے کہ جب تم نے نماز کی تو فرمائی: اللهم ایئنی اعوذ بک من العجز والکسل الخ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تم سے سنا ہے کہ جب تم نے نماز کی تو فرمائی: اللهم ایئنی اعوذ بک من العجز والکسل الخ



شمارہ ۱۱۸۹، صفحہ ۲۹۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِ
 بَعْدُ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدُ خَلْفِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ

جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ

وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ

الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

وَالْهَمَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ

الْمَسِيحِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ



عزت انیس فرماتے ہیں
 کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم یہ دعا پڑھا کرتے
 اللہم انی اعوذ
 بک من العجز
 التمدی، انیس رضی اللہ عنہ
 صفحہ ۲۱۸، شمارہ ۱۳۳۶

حضرت عبدالعزیز عباس رضی
 اللہ عنہ سے روایت ہے حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں کہ اس دعا سے کھلتے
 ہیں جسے کہتے ہیں شریف
 اللہم انی اعوذ بک من العجز
 التمدی، انیس رضی اللہ عنہ
 صفحہ ۲۱۸، شمارہ ۱۳۳۶

عزت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے :
 اللہم انی اعوذ بک من العجز
 التمدی، انیس رضی اللہ عنہ
 صفحہ ۲۱۸، شمارہ ۱۳۳۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بَعْدَهُ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرِضَىٰ نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي! اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ ارِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

لے اللہ! میں پناہ لیتا ہوں تیری کم ہمتی سے

وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبَنِ وَاعُوذُ بِكَ

اور پناہ لیتا ہوں میں تیری بزدلی سے اور پناہ لیتا ہوں میں تیری

مِنَ الْهَدْمِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ

پیراڑ سالی سے اور پناہ لیتا ہوں میں تیری

الْبُخْلِ

۱ بار

اللَّهُمَّ ارِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

لے اللہ! میں پناہ لیتا ہوں تیری کم ہمتی سے

وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاعُوذُ بِكَ

اور در ماندگی سے اور بخل سے

لَهُ اللَّهُمَّ ارِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

لے اللہ! میں پناہ لیتا ہوں تیری کاہلی سے

وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَ

اور بڑھاپے کے ضعف سے اور گناہ سے اور مفروض ہونے سے اور

مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ

جبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور

فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ

دوزخ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے اور

شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَىٰ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ

دولتمندی کے فتنے کے شر سے اور پناہ لیتا ہوں میں تیری افلاس کے

لے حضرت عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ عنہا
 سے مروی ہے کہ
 جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا کرتے تھے:
 اے اللہ! میں تیری
 پناہ لیتا ہوں تیری
 کم ہمتی سے اور
 پناہ لیتا ہوں میں
 تیری بزدلی سے اور
 پناہ لیتا ہوں میں
 تیری پیراڑ سالی سے
 اور پناہ لیتا ہوں
 میں تیری کاہلی سے
 اور پناہ لیتا ہوں
 میں تیری بڑھاپے کے
 ضعف سے اور گناہ
 سے اور مفروض
 ہونے سے اور پناہ
 لیتا ہوں میں تیری
 قبر کے عذاب سے
 اور پناہ لیتا ہوں
 میں تیری دوزخ کے
 فتنے سے اور آگ
 کے عذاب سے اور
 پناہ لیتا ہوں میں
 تیری دولت مندگی
 کے فتنے کے شر سے
 اور پناہ لیتا ہوں
 میں تیری افلاس کے

لے حضرت عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ عنہا
 سے مروی ہے کہ
 جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا کرتے تھے:
 اے اللہ! میں تیری
 پناہ لیتا ہوں تیری
 کم ہمتی سے اور
 پناہ لیتا ہوں میں
 تیری بزدلی سے اور
 پناہ لیتا ہوں میں
 تیری پیراڑ سالی سے
 اور پناہ لیتا ہوں
 میں تیری کاہلی سے
 اور پناہ لیتا ہوں
 میں تیری بڑھاپے کے
 ضعف سے اور گناہ
 سے اور مفروض
 ہونے سے اور پناہ
 لیتا ہوں میں تیری
 قبر کے عذاب سے
 اور پناہ لیتا ہوں
 میں تیری دوزخ کے
 فتنے سے اور آگ
 کے عذاب سے اور
 پناہ لیتا ہوں میں
 تیری دولت مندگی
 کے فتنے کے شر سے
 اور پناہ لیتا ہوں
 میں تیری افلاس کے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَبِينَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْقَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يَا رَحِيمُ

الْفَقْرُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ

فقرتے سے اور پناہ لیتا ہوں میں مسیح دجال کے بھتنے سے

الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ

اے اللہ دھو دیجئے میری خطاؤں کو برت

التَّلْجِ وَ الْبَرْدِ وَ نِقِّ قَلْبِي مِنْ

اور اولوں کے پانی سے اور پاک کر دیجئے میرے دل کو

الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ

گناہوں سے جیسا پاک اور اجلا کیا ہے تونے سفید کپڑے کو

مِنَ الدَّنَسِ وَ بَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ

میل پھیل سے اور ڈوری ڈال دیجئے میرے اور میرے

خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ

گناہوں میں جیسا کہ درری ڈالی ہے تو نے مشرق اور

وَ الْمَغْرِبِ

مغرب کے درمیان

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری سستی سے

وَ الْهَرَمِ وَ الْمَغْرَمِ وَ الْمَأْثَمِ اللَّهُمَّ

اور بڑھاپے کے ضعف سے اور مقروض ہونے سے اور گناہ سے اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ

میں پناہ لیتا ہوں تیری آگ کے عذاب سے اور

فِتْنَةِ النَّارِ وَ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ

آگ کے بھتنے سے اور بڑے بھتنے سے اور قبر کے عذاب سے

وَ شَرَفِئْتَهُ الْغَنَى وَ شَرَفِئْتَهُ الْفُقْرَ وَ مِنْ

اور دولت مندی کے بھتنے سے شرف سے اور غنسی کے بھتنے سے شرف سے اور

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 عنہا سے مروی ہے کہ حضور
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو شخص
 اس دعا کو پڑھے وہ
 اپنے گناہوں سے
 محفوظ رہے گا۔
 (مشکوٰۃ، ج ۱، ص ۱۶۹)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 تَقَاتَلْنَا مِنْكَ
 إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَىٰ نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

شَرَّفَتْهُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ اللَّهُمَّ اغْسِلْ

سیح دجال کے ہفتے کے شر سے اے اللہ دھو دیجئے

خَطَايَايَ بِمَاءِ الشَّلْحِ وَالْبَرْدِ وَتُقِ

میری خطاؤں کو برف کے پانی سے اور اولوں سے اور پاک

قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ

کر دیجئے میرے دل کو خطاؤں سے جیسا کہ پاک دھات کر دیا جاتا ہے

الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَ

سفید کپڑا میل پھیل سے اور دوری ڈال دیجئے میرے

بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدَتْ بَيْنَ

اور میری خطاؤں کے درمیان جیسا کہ دوری ڈالی ہے تو نے

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَبَار

مشرق اور مغرب کے درمیان

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری آگ کے

النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقُبْرِ

ہفتے سے اور آگ کے عذاب سے اور قبر کے فتنے سے

وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَسَرَفْتِنَةِ الْغَنِيِّ وَسَرِّ

اور قبر کے عذاب سے اور دوست بندی کے فتنے کے شر سے

فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

اور مفلسی کے فتنے کے شر سے اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری

شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ

سیح دجال کے فتنے کے شر سے اے اللہ

اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الشَّلْحِ وَالْبَرْدِ

دھو دیجئے میرے دل کو برف کے پانی سے اور اولوں سے

عنه حضرت عائشة صدیقہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
 روایت ہے کہ حضور اکرم
 اکمل خاتم النبیین
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ میں نے اپنے آپ کو
 فتنے سے محفوظ رکھا ہے
 اور اللہ تعالیٰ نے میرے
 دل کو محفوظ رکھا ہے
 اس لیے میں نے اپنے آپ کو
 فتنے سے محفوظ رکھا ہے
 اور اللہ تعالیٰ نے میرے
 دل کو محفوظ رکھا ہے

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَنُقِّتَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتِ

اور پاک صاف کر دیجئے میرے دل کو گناہوں سے جیسا کہ پاک صاف کیا ہے

التُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّسِّ وَ بَاعِدُ

تو نے سفید کپڑے کر میل پھیل سے اور دوری ڈال

بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتِ

دیکھئے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جیسا کہ دوری ڈال دی ہے تو نے

بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي

مشرق اور مغرب کے درمیان اے اللہ میں

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْمَأْمَرِ وَالْمَغْرَمِ آبَار

پناہ لیتا ہوں تیری سستی سے اور گناہ سے اور مقررہ ہونے سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

اے اللہ! میں پناہ لیتا ہوں تیری

فِتْنَةِ النَّارِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ

آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ أَعُوذُ بِكَ

پناہ لیتا ہوں میں تیری قبر کے فتنے سے اور پناہ لیتا ہوں تیری

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ

قبر کے عذاب سے اور پناہ لیتا ہوں میں تیری دولت مندی کے

الْفَقْرِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَ

فقر سے اور پناہ لیتا ہوں میں تیری مفلسی کے فتنے سے اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

پناہ لیتا ہوں میں تیری مسیح دجال کے فتنے سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری آگ کے فتنے سے

۱۰۹۸
 من فتنۃ الناس...
 اللہم اعوذ بک
 کرتے تھے...
 علی التوکلید...
 سے روایت ہے...
 ام المؤمنین حضرت عائشہ

۱۰۹۸
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا...
 حضرت عائشہ صدیقہ
 روایت ہے...
 کہ حضور قدس
 سرہ نے فرمایا...
 میں آؤں...
 فتنۃ المسیح
 الدجال...
 جلد اول
 شمارہ ۱۴۶
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
يَا لَيْسَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ

اور آگ کے عذاب سے اور دولت مند اور مفلسی کے شر سے

لَهُ اللَّهُمَّ بَرِّدْ قَلْبِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرِّدِ

اے اللہ! ٹھنڈا کر دے میرے دل کو برف اور آبلوں سے

وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ نِقِّ قَلْبِي

اور ٹھنڈے پانی سے اے اللہ پاک وصاف کر دے میرے دل کو

مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الشُّوبَ

گناہوں سے جیسا کہ پاک وصاف کیا تو نے سفید کپڑے کو

الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ

بار

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری فکر سے اور

الْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ

غم سے اور درماندگی سے اور سستی سے اور بخل سے

وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَفَهْرِ الرَّجَالِ

اور قرض کے زیر بار ہونے سے اور لوگوں کے دباؤ سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری فکر سے

وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَ

اور غم سے اور درماندگی سے اور سستی سے اور

الْبُخْلِ وَالْحَيْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ

بخل سے اور بزدلی سے اور قرض کے زیر بار ہونے سے

وَعَلْبَةِ الرَّجَالِ

اور لوگوں کے دباؤ سے

۱۳ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو اس کا دل ٹھنڈا ہوا اور گناہوں سے پاک ہو گیا۔

۱۳ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو اس کا دل ٹھنڈا ہوا اور گناہوں سے پاک ہو گیا۔

۱۳ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو اس کا دل ٹھنڈا ہوا اور گناہوں سے پاک ہو گیا۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ وَخَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری رنج سے اور

الْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ

غم سے اور درماندگی سے اور سستی سے اور بزدلی سے

وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ

اور بخل سے اور ضمن کے زیر بار ہونے سے اور لوگوں کے

الرِّجَالِ

ا بار

دباؤ سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری درماندگی سے

وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ

اور سستی سے اور بزدلی سے اور بخل سے اور

الْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ اتِّ

ضعف پیری سے اور قبر کے عذاب سے اے اللہ عطا کر

نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ

میرے نفس کو پرمہیز گاری اور پاک کر دے اس کو تو ہی سب سے بہتر

زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ

پاک کرنے والا ہے اس کو، تو ہی کارساز ہے اس کا اور تو ہی آقا ہے اس کا اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَ

میں پناہ لیتا ہوں تیری ایسے علم سے جو نفع نہ دے اور

مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا

ایسے دل سے جو خشوع سے خالی ہو اور ایسے نفس سے جو

تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يَسْتَجَابُ لَهَا

سیر نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔

لے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے مروی ہے کہ حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا
 پڑھا کرتے تھے: اللَّهُمَّ افْعَلْ
 بِي كَمَا تَشَاءُ

بخاری شریف، جلد سوم
 صفحہ ۲۹۹، شمارہ ۱۶۹

عن حضرت انس
 رضی اللہ عنہ

لے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے مروی ہے کہ حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا
 پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ افْعَلْ
 بِي كَمَا تَشَاءُ

عن حضرت انس رضی اللہ عنہ
 صفحہ ۲۹۹، شمارہ ۱۶۹



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَوْ أَنَّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ

زبان کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے اور اپنی

شَرِّ مَنِيٍّ

مینی کے شر سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُدْمِ وَقِ

اے اللہ میں ہناہ لیتا ہوں تیری دہ کر مرنے سے اور

أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدِيٍّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ

ہناہ لیتا ہوں تیری اگر کر مرنے سے اور ہناہ لیتا ہوں میں تیری ڈوب کر

الغرقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ

مرنے سے اور جل کر مرنے سے اور ضعف پیری میں مرنے سے اور ہناہ لیتا ہوں تیری

أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ

کر ہڈا کر دے مجھے شیطان موت کے وقت اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ

ہناہ لیتا ہوں میں تیری اس سے کہ مروں میں تیری راہ میں

مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ

پہنچے پھیرتے ہوئے اور ہناہ لیتا ہوں میں تیری اس سے کہ مروں میں

لَدَيْعًا

جانور کے ڈسنے سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جُهِدِ الْبَلَاءِ

اے اللہ ہم ہناہ لیتے ہیں تیری مشکل آزمائش سے

وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَ

اور بد بختی کے پہنچنے سے (وارد ہونے سے) اور بُری تقدیر سے اور

شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

دشمنوں کی ہنسائی سے

۴۰ حضرت ابوسریحہ رضی اللہ عنہ
 ہجرتی ۱۲۰ و مشکوٰۃ ، شمارہ ۱۹۶۸
 مشائق الانوار ، صفحہ ۶۳۶

۵ ابوسریحہ رضی اللہ عنہ
 حصن حصین ، شمارہ ۱۲
 ۱۹۶۳

۱۰ حضرت ابوسریحہ رضی اللہ عنہ
 کہتے ہیں کہ غایت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ہجرتی ۱۲۰
 کرتے تھے :
 اللَّهُمَّ افِئْ أَعُوذُ بِكَ
 مِنَ الْمُهْلَمِ الْوَا
 ابوسریحہ ، ابوداؤد ، سنن
 مشکوٰۃ شریف ، جلد اول
 شمارہ ۱۲۲۳ ، صفحہ ۲۱۶

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

صیغہ اس بات سے کہ دشمن ہمارے
 پہنچیں ، جیسے کہتے ہیں
 "ہمارے رب! ہم آپس میں
 لڑ رہے ہیں، تو تم سناؤ اور
 جان لو، اے عالمین کے رب!"

ہماری
 "منہج"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَمَّتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ أَلْهَمْنِي رَشْدِي وَاعْزِدْنِي

اے اللہ آمار دیکھے میرے دل میں ہدایت اور پناہ دیکھے مجھے

مِنْ شَرِّ نَفْسِي

میرے نفس کے شر سے

لَهُ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ

اے اللہ درست فرما دے تو میرے لئے میرے دین کو جس پر

عِصْمَةٌ أَمْرِي وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ

دار و مدار ہے میرے کام کا اور درست فرما دے تو میرے لئے میری دنیا کو

الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَاصْلِحْ لِي آخِرَتِي

جس میں میرا گزر بسر ہے اور درست فرمائے تو میرے لئے میری آخرت کو

الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ

جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے اور بنا دے زندگی کو

زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ

باعث زیادتی میرے لئے ہر بھلائی میں اور بنا دے

الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ أَبَدًا

موت کو باعث نجات میرے لئے ہر بُرائی سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری بزدلی سے

وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ

اور بخل سے اور بُری عمر سے اور پھینکنے کے

الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

پہننے سے اور قبر کے عذاب سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری اس چیز کے شر سے

حضرت
 عمران بن حصین
 رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
 کے اسلام لانے سے پہلے
 کے صحن کی عبادت کی
 اپنے خادوں کے ساتھ
 اپنے والد نے ان کو
 جیسے مہجوروں (موتوں)
 زمین کے مہجوروں کے
 کی اور ایک آسمان سے
 صحن کی حضور نے فرمایا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اے صحن! ان مہجوروں
 میں سے تو جس سے صحن کی
 کی اس پر رکھنا اور جس سے
 ڈرتا ہے جو آسمان
 کہا۔ اس سے صحن کی
 پر ہے۔ صحن کی
 نے فرمایا۔ اے صحن!
 اگر تو اس کے قبول
 کر لیتا جو میں تم کو وہ
 دیکھ سکے عمران کا بیان
 نفع پہنچاتے عمران نے
 صحن کیا حضور نے
 اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ میں نے اس کو اپنے صحن کی

حضرت
 عمران بن حصین
 رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
 کے اسلام لانے سے پہلے
 کے صحن کی عبادت کی
 اپنے خادوں کے ساتھ
 اپنے والد نے ان کو
 جیسے مہجوروں (موتوں)
 زمین کے مہجوروں کے
 کی اور ایک آسمان سے
 صحن کی حضور نے فرمایا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اے صحن! ان مہجوروں
 میں سے تو جس سے صحن کی
 کی اس پر رکھنا اور جس سے
 ڈرتا ہے جو آسمان
 کہا۔ اس سے صحن کی
 پر ہے۔ صحن کی
 نے فرمایا۔ اے صحن!
 اگر تو اس کے قبول
 کر لیتا جو میں تم کو وہ
 دیکھ سکے عمران کا بیان
 نفع پہنچاتے عمران نے
 صحن کیا حضور نے
 اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ میں نے اس کو اپنے صحن کی



عمران بن حصین رضی اللہ عنہما
 کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ میں نے اس کو اپنے صحن کی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْتَى اسْتَغْفِرَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

عَلِمْتُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْلَمْ

جس کا مجھے علم ہے اور اس کے شر سے جس کا مجھے علم نہیں ہے
 لَهُ اللَّهُمَّ اِنْفِثْ اَعُوذُكَ مِنْ غَلْبَةِ
 اے اللہ میں ہتھیار لٹا ہوں تیری رحمت کے

الذَّيْنِ وَ غَلْبَةِ الْعَدُوِّ وَ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

پڑھنے والوں سے اور دشمن کے غلبے سے اور اس سے کہ دشمن محمد پر ہنسے۔

لَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
 اے اللہ ہمارے پروردگار عطا کر ہمیں دنیا میں بھلائی

وَ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ
 اور آخرت میں بھلائی اور بچالے ہمیں آگ کے

النَّارِ

عذاب سے

لَهُ اللَّهُمَّ اِنْفِثْ اَسْئَلُكَ الْهُدَى وَ
 اے اللہ میں ہاتھ پائی ہوں تجھ سے ہدایت اور

السَّدَادَ

راستی

لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ اَرْحَمْنِي وَ
 اے اللہ بخش دیجئے مجھے اور رحم فرمائے مجھ پر اور

عَافِنِي وَ اَرْزُقْنِي وَ اِهْدِنِي اَبَا
 تندرستی عطا کیجئے مجھے اور رزق دیجئے مجھے اور ہدایت دیجئے مجھے

علم الہدیہ رضی اللہ عنہ
 ص ۲۱۳

علم ابی ہاشم رضی اللہ عنہ
 ص ۲۱۳
 اور اس کی دوری روایت
 میں (علم حسین ص ۲۱۳)

علم عبد اللہ بن عمرو بن العوف
 حاکم، ابن حبان
 ص ۲۱۳

علم اس رضی اللہ عنہ
 بخاری، مسلم، ابوداؤد
 نسائی
 ص ۲۱۳



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْحِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَحْسَنَ حَتَّى

یا اللہ کر دے مجھے کہ دُروں مجھ سے تمہارا کہ

كَأَنِّي أَرَاكَ أَبَدًا حَتَّى أَلْقَاكَ

میں دیکھتا ہوں ہر وقت یہاں تک کہ آہوں

وَأَسْعِدُنِي بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْفِنِي

میں تجھ سے اور سمجھ کر دے مجھے اپنے تقویٰ سے اور نہ لٹھنی

بِمَعْصِيَتِكَ وَأَجْرُنِي فِي

کہ مجھے اپنی نافرمانی سے اور پناہ دے مجھے اپنی

فَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِي

فضا میں اور برکت دے مجھے اپنی ندرت

مُدْرَتِكَ حَتَّى لَا أَحِبَّ تَجْمِيدَ

میں یہاں تک کہ میں ناپسند کروں جس چیز

مَا آخَرْتِ وَلَا تَأْخِيرَ مَا

کو تو نے تاخیر کیا ہے جلدی ہونا اور نہ ہی میں چاہوں

عَجَلْتِ وَأَجْعَلْ غِنَاكَ فِي

تاخیر ہونا اس کام کا - جسے تُو جلدی کرے - اور میرے نفس

نَفْسِي وَمَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي

میں غنا بھر دے اپنی اور نفع دے مجھے میرے کانوں سے اور میری نظر سے

وَأَجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي وَالصَّرِي

اور بنا تو ان کو میرا وارث اور مدد کر میری اس شخص کے مقابلہ

عَلِيٍّ مَنْ ظَلَمَنِي وَأَرِنِي فِيهِ تَارِي

میں جو مجھ پر ظلم کرے اور دکھا مجھے اس شخص میں میرا بدلہ اور

وَأَقْرِبْ بَدَأَكَ عَيْنِي

ابار
 منڈا کر ساتھ اس بات کے میری آنکھ کو

کتاب اعمال جلد اول
 صفحہ ۱۹۲
 شمارہ ۳۴۲۰۷
 عن الزهري ر

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَرِمَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا بَلَّغِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ الطُّفُّ بِنِي فِي تَبْسِيرِ

يا الله احسان کر میرے ساتھ سہل کر دینے میں
 كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَبْسِيرَكَ

ہر دشوار کے کیونکہ سہل کر دینا ہر دشوار کا
 عَسِيرٍ عَلَيْكَ بَسِيرٌ وَأَسْأَلُكَ

تجھ پر آسان ہے اور مانگتا ہوں میں تجھ
 الْيُسْرَ وَالْمَعَاوَةَ فِي الدُّنْيَا

سے سہولت اور معافی دنیا اور
 وَالْآخِرَةِ

آخرت میں
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي

يا الله بخش دیجئے میری خطا اور میری نادانی
 وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ

اور جو زیادتی ہوئی مجھ سے اپنے کام میں اور وہ جس کو تو
 أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي

ابار
 زیادہ جانتا ہے مجھ سے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدَائِي وَهَزْلِي وَ

اسے الله بخش دیجئے مجھے میرا کج کارگاہ اور میرا ہنسی مانگ کارگاہ اور
 خَطِيئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ

میرا نادانستہ گناہ اور میرا دانستہ گناہ اور یہ سب
 عِنْدِي

ابار
 مجھ سے ہوا ہے

۱۹۴
 ۳۴۶۹
 ۶۰
 ۲۴۱-۲۴۲

۵۴
 ۱۰۴
 ۱۰۴



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ دُخْلِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْتَ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَالِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا

اے اللہ بخش دیجئے میرے اگلے گناہ اور

اخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْنَتُ

میرے پچھلے گناہ اور میرے پلاشیدہ گناہ اور میرے کھلے گناہ

وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي

اور میرے وہ گناہ جن کو تو زیادہ جانتا ہے مجھ سے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

کوئی سمجھ نہیں سکتا تو

أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخَّرُ وَأَنْتَ

تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے ڈال دینے والا ہے

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

يَا دُعَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَنْبِي وَ

اے اللہ بخش دے مجھے میرا کچھ کا گناہ اور میرا ہنسی مذاق کا گناہ اور

خَطِيئِي وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي كَسَاتِهِ

میرا نادانستہ گناہ اور میرا دانستہ گناہ اور یہ سب کچھ مجھ سے ہوا ہے

يَا رَهْنِي يَا حَبِيبِي يَا سَلَامِي يَا سَلَامِي يَا سَلَامِي

اے اللہ بخش دے میرا کچھ کا گناہ

وَهَنْبِي وَخَطِيئِي وَعَمْدِي وَكُلَّ

اور میرا ہنسی مذاق کا گناہ اور نادانستہ گناہ اور میرا دانستہ گناہ اور یہ سب

ذَلِكَ عِنْدِي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ

پچھ مجھ سے ہوا ہے تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی

الْمُوَخَّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

پیچھے ڈال دینے والا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

اے اللہ بخش دیجئے میرے اگلے گناہ اور میرے پچھلے گناہ اور میرے پلاشیدہ گناہ اور میرے کھلے گناہ اور میرے وہ گناہ جن کو تو زیادہ جانتا ہے مجھ سے کوئی سمجھ نہیں سکتا تو

اے اللہ بخش دے میرا کچھ کا گناہ اور میرا ہنسی مذاق کا گناہ اور میرا دانستہ گناہ اور میرا دانستہ گناہ اور یہ سب کچھ مجھ سے ہوا ہے تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے ڈال دینے والا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

اے اللہ بخش دے میرا کچھ کا گناہ اور میرا ہنسی مذاق کا گناہ اور میرا دانستہ گناہ اور میرا دانستہ گناہ اور یہ سب کچھ مجھ سے ہوا ہے تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے ڈال دینے والا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِ
 يَدْعُ كُلُّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدُ خَلْقِكَ وَرَضِيَ نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْتِي اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَ

میرے رب بخش دے میری خطا اور میری نادانی اور

إِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ

میرے زیادتی جو میں نے اپنے کام میں کی تمام کی تمام اور وہ جس کو تو

أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

زیادہ جانتا ہے مجھ سے اے اللہ بخش دے

خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي

میرے نادانتر گناہ اور میرے دانستہ گناہ اور میری نادانی اور میرے ہنسی مذاق کے گناہ

وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

اور یہ سب کچھ مجھ سے چڑا ہے اے اللہ بخش دے

مَا قَدَّامْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ

میرے اگلے گناہ اور میرے پچھلے گناہ اور میرے پوشیدہ گناہ اور وہ

وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمَقْدِيمُ وَأَنْتَ الْمَوْخِرُ وَ

گناہ جو میں نے علانیہ کیے ہیں تو ہی اے اللہ پہلے والا ہے تو ہی تمہیں ڈالنے والا ہے اور

أَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

لَهُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ

میں تیری رضا مندی کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے اور

بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَبِكَ مِنْكَ

تیری معافی کے ساتھ تیری سزا سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے

أَشْنَىٰ عَلَيْكَ وَلَا أَبْلُغُ كُلِّ مَا فِيكَ

عذاب سے میں تیری لعنت کرتا ہوں تیری ان سب چیزوں کی لعنت نہیں کر سکتا جو تجھ میں ہیں

لے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ
 عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا
 کرتے تھے :
 رب اغفر لي خطيئتي يا

بخاری شریف
 جلد سوم
 صفحہ ۲۰۵
 شمارہ ۱۳۱۸

لے
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۲۰
 شمارہ ۱۳۱۸
 عن عائشہ رضی

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 اللَّهُمَّ إِنِّي عَابَدْتُكَ مِنْ شَرِّ

اسے اللہ جو تو نے ہم کو دیا ہے میں اس کے شر سے بڑی

مَا أَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا أَبَار

پناہ لیتا ہوں۔ اور جو ہم کو نہیں دیا اس کے شر سے بھی بڑی پناہ لیتا ہوں

۴۰
 ترتیب شریف
 تالیف تاجی
 صفحہ ۱۰

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ السَّالِمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجِبِينَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

الْعِشَاءُ

لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَ

اسے اللہ بخش دیتے ہیں میری خطا اور میری نادانی اور

إِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

جو زیادتی ہوئی مجھ سے اپنے کام میں اور وہ جس کو تو زیادہ جانتا ہے

مِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي

مجھ سے اسے اللہ بخش دے میرے ہنسی مذاق کے لگانے اور میرے سچے سچے لگانے

وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلِّ ذَلِكَ

اور میرے نادانستہ لگانے اور میرے دانستہ لگانے اور یہ سب

عَنْدِي

مجھ سے ہوا ہے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتِقَى

اسے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ہدایت اور پارسی

وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

اور پاک دامنی اور دولت مند

لَهُ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسِدِّدْنِي

اسے اللہ ہدایت دے مجھ اور راستی پر رکھ مجھ

لَهُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي

اسے اللہ تیرے ہی لئے حمد دیتا ہے جیسے تو کہتا

تَقُولُ خَيْرًا مِمَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ

ہے (اور) اس سے اچھی جیسی ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرے ہی

لہ الہومنی اشرفی رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو بخش دے گا اور اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا

بخاری شریف جلد سوم صفحہ ۳۰۵
 شمارہ ۱۳۱۹
 عن ابویہ اشرفی رضی اللہ عنہ

پسیدھا چلنے کو اور جب سوال کرے تو راستی سے جواب دے گا تصور کر، راستی بیکار

علی گرام اشرفیہ شیکلہ شریف جلد اول شمارہ ۲۲۵۶، صفحہ ۲۱۸

عبدالرشید بسوگر رضی اللہ عنہ

شیکلہ شریف، جلد اول صفحہ ۲۱۸
 شمارہ ۱۳۵۵
 حصہ حصین صفحہ ۲۰۷
 پیر بہ حدیث امام ترمذی
 اور ابن ماجہ سے بھی مروی ہے

حضرت امیر المومنین علی کریم اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو یہ پڑھا

اللہم اھدنی وسددنی جب تو ہدایت کر طلب کرے تصور میں رکھ راستی سے



لہ اعمال جلد اول شمارہ ۲۱۸
 من علی المرتضیٰ صفحہ ۵۹
 جامع ضروری صفحہ ۵۹
 عن علی المرتضیٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

صَلَاتِي وَتُسْكِي وَمَحْيَايَ وَهَمَاتِي وَ

لئے ہے میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اور

إِلَيْكَ مَلَأْنِي وَلَكَ رَبِّ تَرَاتِي

تیری ہی طرف ہے میرا رجوع اور تیرا ہی ہے جو کچھ میں چھوڑ جاؤں گا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ

اسے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب سے

الْقَبْرِ وَوَسْوَاسَةِ الصُّدْرِ وَشَتَاتِ

اور سینے کے دوسرے اور معاملے کے پرگندہ

الْأَمْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ

ہونے سے یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی

خَيْرٍ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيَّاحُ وَأَعُوذُ

ان چیزوں کی جن کو ہوا میں لاتی ہیں اور تیری پناہ

بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ

لستوں اس چیز کی برائی سے جو ہوا لاتی ہے

رَبِّ أَعْيَنِي وَلَا تَعْنُ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا

میرے پروردگار مدد کیجئے میری اور نہ مدد کیجئے میرے خلاف اور فتح عطا کیجئے مجھے اور نہ

تَنْصُرْ عَلَيَّ وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ

فتح دینے کی کوئی میرے اوپر اور نہ میرے حق میں اور میرے اور ہمدرد نہ بنے

وَأَهْدِنِي وَيَسِّرْ لِي الْهَدَىٰ لِي وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ

اور ہدایت دینے مجھے اور آسان کیجئے ہدایت میرے لئے اور نجات دینے مجھے اس پر جو

مَنْ أَبْغَىٰ عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ

مجھ پر ظلم کرنے والے پروردگار بنا دے مجھے ایسا کہ ہر جاؤں میں

ذَكَارًا لَكَ شَكَارًا لَكَ رَهَابًا

تیرا بہت زیادہ ڈر کرنے والا ، صرف تیری ہی شکر گزاری کرنے والا ، خوف تجھ سے ہکا ہمت

ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ترمذی ۲، الروادور، ابن ماجہ
 شکرہ شریف، جلد اول
 شمارہ ۲۳۵۹
 صفحہ ۴۱۸
 ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ابن حبان ۲، سنن ابویوسف
 ابن ابی شیبہ ۲، حاکم ۲
 حسن حصین، صفحہ ۵-۴۷۲

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ۝

لَكَ مَطْوَعًا لَكَ مُطِيعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا

گر نخواستی، صفت تیری ہی بہت اطاعت کرنا والا، صفت تیرا ہی ذرا ہندار، صفت تیرے ہی آگے

إِلَيْكَ أَوْ آهًا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي

چھکنے والا، صفت تیرے ہی سامنے گرنے والی کرنا والا، تیری ہی طرف بھج کرنا والا، تیرے ہی دکا قبول کرنے والے

وَاعْسَلْ حَوْبَتِي وَاجِبْ دَعْوَتِي

میری لڑائی کو اور دھو دیکھ میرے گناہ کو اور سن میرے چھینے میری ہنگام کو

وَتَبَّتْ حُجَّتِي وَ سَدَّ لِسَانِي وَ أَهْدِ

اور قائم کر دیکھ میری حجت کو اور راستی پر رکھنے میری زبان کو اور ہدایت دیکھ

قَلْبِي وَ اسْلُ سَخِيمَةَ صَدْرِي بَارِ

میرے دل کو اور لیٹھ کر باہر نکال دیکھ میرے سینے کی کدورت کو

لَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَ أَنْتَ

مے اللہ تو ہی میری قوت بازو ہے اور تو ہی

نَصِيرِي وَ بِكَ أَقَاتِلُ

میرا حامی و مددگار ہے اور تیری ہی مدد سے میں لڑتا ہوں۔

لَهُ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَ

اے اللہ پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے اور

عَمَلِي مِنَ الرِّكَاةِ وَ لِسَانِي مِنَ

میرے عمل کو رکبا سے اور میری زبان کو

الْكَذِبِ وَ عَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ

جھوٹ سے اور میری نگاہ کو خیانت سے بیشک تو

تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مَا تَخْفَى

جاتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور جو کچھ چھپا رکھتے ہیں

الصُّدُورُ

سینے

مے حضرت اممید رضی اللہ عنہا
 کہتی ہیں کہ میں نے جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو فرماتے سنا ہے
 اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ
 النِّفَاقِ

اممید رضی اللہ عنہا
 نے فرمایا ہے
 اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ
 النِّفَاقِ
 شمارہ ۱۲۳۲
 صفحہ ۲۶۱

مے حضرت انس رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
 سکھایا کہ یوں دعا مانگا کرو
 اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي
 وَ أَنْتَ نَصِيرِي وَ بِكَ
 أَقَاتِلُ
 انش، ترتیب
 ترتیب شریف، جلد دوم
 شمارہ ۱۲۳۲، صفحہ ۲۶۱

وَتَنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ دَخْلِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِّنْ

اے اللہ بنا دے میرے باطن کو بہتر

عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً

میرے ظاہر سے اور بنا دے میرے ظاہر کو بھی اچھا (نیک)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے وہ اچھی چیز جو

تُوَقِّي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ

دیتا ہے تو لوگوں کو مال ہو یا اہل

وَالْوَالِدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَالْمُضِلِّ

یا اولاد ایسی کہ جو نہ خود گمراہ ہو اور نہ گمراہ کرنے والی ہو

لَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَعْظَمُ شُكْرِكَ

اے اللہ بنا دے مجھے ایسا کروں میں تیرا شکر عظیم

وَ أَكْثَرُ ذِكْرِكَ وَأَتَّبِعْ نَصِيحَتَكَ

اور زیادہ کروں میں تیرا ذکر اور پیروی کروں میں تیری نصیحت کی

وَ أَحْفَظْ وَصِيَّتَكَ

اور یاد رکھوں میں تیری وصیت کو

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَ

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے صحت اور

الْعِفَّةَ وَ الْأَمَانَةَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ

پاک دامنی اور امانت داری اور حسین اخلاق

وَ الرِّضَى بِالْقَدَرِ

اور راضی رہنا تقدیر پر

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَدَّتِكَ لَا إِلَهَ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیرے علیے کی کوئی چیز نہیں ہے

طہارۃ و دعا ہے
 جہانگیرا - ۲۰
 اللہم اجعلنی اعظم البزیرہ رقم
 تفسیر شریف جلد دوم
 شمارہ ۱۲۵۵
 صفحہ ۳۲۸

لے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہما
 کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ
 اللہم انی اسئلك الصحة و
 العفة و الامانة و حسن الخلق
 و الرضى بالقدر
 شمارہ ۲۳۷
 صفحہ ۳۲۱

لے ابن عباس رضی اللہ عنہما
 فرماتے ہیں کہ
 اللہم اجعلنی اعظم البزیرہ رقم
 تفسیر شریف جلد دوم
 صفحہ ۳۲۸

لے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہما
 کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا
 کہ میں دعا مانگتا ہوں کہ
 اللہم اجعل مسیری قوی اور
 (یہ حدیث فریب ہے اس کی
 اسناد قوی نہیں)
 عمر رضی اللہ عنہما جلد دوم
 تفسیر شریف
 شمارہ ۱۲۳۲، صفحہ ۳۲۳

لے حضرت البزیرہ رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ میں نے جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے ایک دعا سیکھی کہ
 کہ میں کہتا ہوں کہ
 اللہم اجعل مسیری قوی اور
 (یہ حدیث فریب ہے اس کی
 اسناد قوی نہیں)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

إِلَّا أَنْتَ مَنْ أَنْ تَضَلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ

مگر تو، اس سے کہ تو مجھ گمراہ کرے تو ہی وہ زندہ ہے

الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ

جو کبھی نہیں مرے گا اور تمام جنت اور تمام انسان

يَمُوتُونَ

میر جائیں گے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری محتاجی سے

وَالْفَاقَةِ وَالذَّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

اور بھول سے اور ذلت سے اور پناہ لیتا ہوں میں تیری اس سے

أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ

کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری انلاسی سے

وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

اور قلت اور ذلت سے اور پناہ لیتا ہوں میں تیری اس سے

أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ

کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُئُكَ مِنْ خَيْرِ مَا

اے اللہ ہم مانگتے ہیں تجھ سے وہ بھلائیوں جو

سَأَلْنَا مِنْكَ مِنْهُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ

پاکی میں تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

علیہ وسلم نے اور پناہ لیتے ہیں ہم تجھ سے اس برائی سے

سنن البوارق ۳
جلد اول
شمار ۱۳۹۲

صفحة ۳۸۱
عن البوارق ۳

عن ابن ابي عمير
صفحة ۳۷۱

۳۷۱-۳۷۲

له البوارق ۳
جلد اول
شمار ۱۳۹۲

صفحة ۳۸۱
عن البوارق ۳

عن ابن ابي عمير
صفحة ۳۷۱

۳۷۱-۳۷۲

رَبَّنَا
تَقَاتِلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْحَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
بَعْدُ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدُ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ

جس سے پناہ مانگی ہے میرے نبی محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ

علیہ وسلم نے اور تجھ ہی سے مدد مانگی جاسکتی ہے اور

عَلَيْكَ الْبُلْغُ وَالْأَحْوَالُ وَالْأَقْوَةُ

تیری ہی ذات مقصود ہے اور نہ کوئی تدبیر اور نہ کوئی طاقت

إِلَّا بِاللَّهِ

ابار

لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری بڑے بڑوسی سے

السُّوءِ فِي دَائِرِ الْمُقَامَةِ فَإِنَّ جَارَ

مستقل گھر کے کیوں کہ سفر کا سامن

الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ

ابار

لَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالذَّيْنِ

پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی کفر سے اور قرض سے

سَهَّ اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ

یا اللہ کھول دے میرے دل کے

قَلْبِي لِذِكْرِكَ وَأَرْزُقْنِي

کان اپنے ذکر کے لئے اور نصیب کر مجھے

طَاعَتِكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ

و فرمانبرداری اپنی اور فرمانبرداری اپنے رسول صلی اللہ علیہ

وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ

ابار

و سلم کی اور عمل اپنی کتاب پر

علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
نشانہ ابن جان
حاکم

صحن صحن
صفر - ۲۶۷ - ۲۶۸

علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
ابن جان، حاکم

صحن صحن
صفر - ۲۶۷

۳۰
کتابخانه مجلس اہل سنت
شار ۱۹۳۷
عمی علی ارتقاہ
و
جامع صحن صحن
۶۰

رَبَّنَا
تَقَاتِلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا بَدِيءُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي

یا اللہ! تو سنتا ہے میری بات کو

وَأَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي

اور دیکھتا ہے میری جگہ کو اور جانتا ہے میرے

وَعَلَانِيَتِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ

پوشیدہ اور ظاہر کو بچھیں نہیں رہ سکتی تجھ سے میری

شَيْءٍ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ

کوئی بات اور میں بے یوں مصیبت زدہ

الْفَقِيرُ الْمُسْتَعِيثُ الْمُسْتَجِيرُ

محتاج زبانی

الْوَجِلُ الْمَشْفِقُ الْمَقْرُّ الْمَعْتَرُ

ترساں ہراساں اقرار کرنے والا ماننے والا

يَذُنُّنِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةً

اپنے گناہ کا سوال کرتا ہوں تجھ سے سوال

الْمُسْكِينِ وَابْتِهَلُ إِلَيْكَ

جسے کس کا سا اور گھونگڑاتا ہوں تیرے سامنے

ابْتِهَالِ الْمَذْنِبِ الذَّلِيلِ وَ

گھونگڑانا گنہگار ذلیل کا سا اور

أَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الْقَرِيبِ

طلب کرتا ہوں تجھ سے طلب کرنا خوف زدہ آنت رسیدہ

(وَدُعَاءِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ

کا سا اور طلب کرنا اس شخص کا سا کہ جھکی ہوئی ہو تیرے سامنے

وَفَاضَتْ لَكَ عِبْرَتَهُ وَ

گردن اس کی اور بہہ رہے ہوں آتش اس کے اور

کتاب اعمال جلد اول
صفحہ ۱۹۲
شمارہ ۳۰۴
عن ابن عباس رضی

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنْهَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

ذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَعِمَ

فردتئی گئے، ہوئے ہووہ تیرے سامنے اور رگڑنا ہو تیرے

لَكَ أَنْفَهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي

سامنے ناک اپنی یا اللہ نہ کر مجھے مجھ سے دعا

يَدُعَايِكَ شَقِيًّا وَكُنْ بِنِي رَوْفًا

مانگنے میں ناکام اور ہو جا مجھ پر بہت

رَّحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَ

مہربان ارحم اے ان سب سے بہتر جن سے مانگا جائے اور

يَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ

ابار اے سب دینے والوں سے بہتر

لَا هُمْ إِلَّا عَيْشٌ إِلَّا عَيْشٌ

یا اللہ نہیں ہے عیش مگر عیش

الْآخِرَةِ

ابار آخرت کا

اللَّهُمَّ لَا يَدْرِكُنِي زَمَانٌ وَلَا

اے اللہ نہ پائے مجھے وہ زمانہ اور نہ

تُدْرِكُ زَمَانًا لَا يَتَّبِعُ فِيهِ

پا نہیں ہم اس زمانہ کو کہ نہ اتناغ کی جائے اس میں

الْعَلِيمُ وَلَا يَسْتَجِي فِيهِ مِنَ الْحَلِيمِ

عالیم کی اور نہ لحاظ کیا جائے اس میں باوقار سے

قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْأَعَاجِمِ وَالسِّنَّةِ

دل ان کے دل بچیوں کے سے اور زبانیں ان کی

السِّنَّةِ الْعَرَبِ

ابار زبانیں عرب کی سی

جامع صغیر صریح
 صفحہ ۵۰۵
 عن النس رقا

۵۰
 تنزیل اعمال جلد اول
 صفحہ شمارہ ۱۹۵
 عن ابی حریزہ رضی

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ دُخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

التَّهَجُّدُ

سَلِّمُ اللَّهُمَّ إِنْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ایسا علم جو نفع دینے والا ہو
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُنِي
 اور پناہ لیتا ہوں میں تیری ایسے علم سے جو نفع نہ دے

سَلِّمُ اللَّهُمَّ إِنْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری ایسے علم سے جو
 يَنْفَعُهُ وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُهُ وَقَلْبٍ لَا
 نفع نہ دے اور ایسے عمل سے جو درجہ قبول کی طرف نہ اٹھایا جائے اور ایسے دل سے

يَخْشَعُ وَقَوْلٍ لَا يُسْمَعُ بِأَرْ

جس میں خشوع نہ ہو اور ایسی بات سے جو سنی نہ جائے۔

سَلِّمُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ تَرْجِعَ عَلَيَّ

اے اللہ ہم پناہ لیتے ہیں تیری اس سے کہ لوٹ جائیں
 أَعْقَابِنَا أَوْ نَفْتِنَ عَنْ دِينِنَا
 اچھے پاؤں یا ڈال دے جائیں ہم دین کی آزمائش میں

(۱ بار)

۴۰
 جابر ابن حبان
 حصن حصین
 صفحہ ۲۶۸

۴۰
 انس رضی اللہ عنہما
 ابن حبان ۵، حاکم
 ابن ابی شیبہ
 حصن حصین
 صفحہ ۲۶۹

۴۰
 جابر ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما
 ابن حبان ۵، حاکم
 ابن ابی شیبہ
 حصن حصین
 صفحہ ۲۶۹



سَمِّ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَالِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اللَّهُمَّ أَعْنِنِي بِالْعِلْمِ وَ

زَيْبِي بِالْحِلْمِ وَ أَكْرَمْنِي

بِالتَّقْوَى وَ حَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ اِبَاد

لَهُ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ

فِتْنَةِ الدَّجَالِ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا

يَنْفَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَ مِنْ

نَفْسٍ لَا تَسْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلِ الْأَرْبَعِ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دُعَاءٍ لَا

اَسْمَعُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما
 ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ
 ابن عباس رضی اللہ عنہما
 طبرانی فی الاوسط

حصن حصین
 صفحہ ۴۹۰-۴۹۱

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما
 طبرانی رحمہ اللہ
 حصن حصین
 صفحہ ۴۹۰-۴۹۱

لہ
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۹۲
 شمارہ ۲۶۰۳
 متن ابن عمر
 رضی اللہ عنہما

لہ زین بن ثابت رضی اللہ عنہ
 ابو عازبہ

حصن حصین
 صفحہ ۴۹۹

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْقِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَلِيْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

يُسْمَعُ وَ قَلْبٌ لَا يَخْشَعُ وَ نَفْسٌ

سستی نہ جاتے اور ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور ایسے نفس سے

لَا تَشْبَعُ

جو سیر نہ ہو

لَهُ اللَّهُمَّ إِنْكَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری سستی سے

وَ الْهَرَمِ وَ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَ

اور ضعف پیری سے اور سینے کے نپٹنے سے اور

عَذَابِ الْقَبْرِ

قبر کے عذاب سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنْكَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری بڑے

السُّوءِ وَ مِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ وَ مِنْ

دن سے اور بڑی رات سے اور

سَاعَةِ السُّوءِ وَ مِنْ صَاحِبِ السُّوءِ

بڑی گھڑی سے اور بڑے ساتھی سے

وَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ

اور بڑے پڑوسی سے مستقل گھر کے

لَهُ اللَّهُمَّ مَصْرُوفِ الْقُلُوبِ صَرِيفِ

اے اللہ پھیرنے والے دلوں کے پھیر دے

قُلُوبِنَا عَلَى طَاعَتِكَ

ہمارے دلوں کو اپنی طاعت پر

لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ

اے اللہ بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر اور

۳۰
عبد اللہ بن عمرو بن ماس
رضی اللہ عنہما
مشکوٰۃ

حصن حصین
صفحہ ۲۴۳

۳۱
ابن ماجہ، ابوداؤد
ابن ماجہ، ابوداؤد
رضی اللہ عنہما

حصن حصین
صفحہ ۲۴۶

۳۲
ابن عباس رضی اللہ عنہما
طراز

حصن حصین
صفحہ ۲۴۹

۳۳
عبد بن عامر رضی اللہ عنہما
طراز

حصن حصین
صفحہ ۲۵۱

رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
۱۱ آمِنٌ آمِنٌ آمِنٌ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بَعْدَهُ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

اَرْضَ عَنَّا وَ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ ادْخُلْنَا

راضی ہو جا ہم سے اور قبول فرما ہماری دعا اور داخل کرے ہمیں

الْجَنَّةَ وَ نَجِّنَا مِنَ الشَّرِّ وَ اصْلِحْ

جنت میں اور بچالے ہمیں آگ سے اور درست فرمائے

لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ

ہمارے لیے ہمارے تمام حالات

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ

اسے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو

لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَ دَعَاءٍ

نفع نہ دے اور ایسے دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے اور اس دعا سے

لَا يُسْمَعُ وَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بئْسَ

جو سنی نہ جائے اور بھوک سے پس ہے شک یہ برا ساقی ہے

الضَّجِيعِ وَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا

اور خیانت سے پس ہے شک یہ بری خصلت ہے

بئْسَتِ الْبِطَانَةُ وَ مِنَ الْكُسَلِ

اور سستی سے اور بخل

وَ الْبُخْلِ وَ الْجَبْنِ وَ مِنَ الْهَرَمِ

سے اور بزدلی سے اور بڑھاپے سے

وَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَ

اور اس بات سے کہ میں گھٹیا عمر کی طرف لوٹا یا سہاؤں اور

مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَ عَذَابِ

دجال کے فتنے سے اور جبر کے عذاب

الْقَبْرِ وَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ

سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے

لہ
 کنز العمال جلد اول
 ۱۹۳
 صفحہ شمارہ
 ۳۶۱۹
 عن ابن مسعود

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْحِي! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ۞

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُئُكَ فَتَلُوبًا

یا اللہ! ہم تجھ سے ایسے دل
 آوَاةٌ مَخْبِتَةٌ مَنِيبَةٌ

جو متاثر ہوں اور عاجزی کرنے والے اور رجوع ہونے والے

فِي سَبِيلِكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُئُكَ

ہوں تیری راہ میں اے اللہ! ہم تجھ سے سوال

عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَمُنِجَاتٍ

کرتے ہیں تیری بخشش کے اعمال کا اور نجات دینے

أَمْرِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ

دائے تیرے حکم اور ہر گنہ سے سلامتی اور ہر تکلیف

إِثْمٍ وَالْغَنِيَّةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ

کی نینیت کے حصول کا اور جنت کی

وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ

کا مہا نجات اور دوزخ سے

مِنَ النَّارِ

نجات ابار

اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي

اے اللہ نہ چھوڑ کر مجھ کو میرے نفس کے ایک

طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا تَنْزِعْ عَنِّي

مجھ سے بھینکنے کی مقدار اور نہ چھین مجھ سے وہ اچھی چیز

صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِي

جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے ابار

کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۹
 شمارہ ۳۶۸۵
 عن ابن عمر
 رضى الله عنهما

رَبَّنَا
 تَقَاتِلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَبِينَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَ أَصْلَحْ

اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہمارے آپس میں

ذَاتَ بَيْنِنَا وَ أَهْدِنَا سَبِيلَ السَّلَامِ وَ

تعلقات خراب کر دے اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور

بِحَنَانٍ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى النُّورِ وَ جَبِّبْنَا

ہمیں ستمگروں سے روشنی میں لا اور ہمیں

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ وَ

ظاہری و باطنی بے حیائیوں سے الگ رکھ اور

بَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا

برکت دے ہمارے کانوں میں اور ہماری آنکھوں میں

وَ قُلُوبِنَا وَ أَرْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا وَ تَبُّ

اور ہمارے دلوں میں اور ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں اور ہماری آنٹی

عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَ

قبول کرے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور

اجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُشِينِينَ بِهَا

ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور ثنا خواں بنا

قَابِلِيهَا وَ آتِيهَا عَلَيْنَا

اور نعمتوں کے قابل بنا اور انھیں ہم پر پہنچا کر

1 بار

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلَوةٍ

اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس نماز سے

لَا تَنْفَعُ

جو نفع نہ دے

1 بار

عہدہ ابن سعید رضی اللہ عنہ
 عالم، بوداؤد شریف، حیدرآباد
 صفحہ ۴۳۸

اس بن مالک / بوداؤد
 بوداؤد شریف، حیدرآباد
 صفحہ ۴۳۸، شمارہ ۱۳۹۷

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعِدْوِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسَكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَلِمَةُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ بِاللَّهِ

يا الله! تو ایسا اللہ نہیں کہ ہم نے اس کو

اسْتَحْدَثْنَا وَلَا بَرَبَ

تجھڑ لیا ہو اور نہ ایسا پروردگار

(بَيِّنٌ ذِكْرُهُ) اسْتَبَدَّ عَنَاةً (وَلَا

کہنا یا بیدار ہو ذکر اس کا اور ہم نے اسے اختیار کیا ہو

عَلَيْكَ شُرَكَاءُ يَقْضُونَ مَعَكَ

اور نہ تیرے اور ساتھی ہیں کہ تیرے حکم میں شریک ہوں

وَلَا كَانَ لَنَا قَبْلَكَ مِنْ إِلَهٍ

اور نہ پہلے تجھ سے ہمارا کوئی اللہ تھا جس کے پاس

نَدَجًا إِلَيْهِ وَ نَذْرَكَ وَلَا

ہم ہمارا پکڑتے ہوں اور تجھ کو چھوڑ دیتے ہوں اور نہ

أَعَانَكَ عَلَى خَلْقِنَا أَحَدٌ فَشَرَكُهُ

مدد کی ہے تیری ہمارے پیدا کرنے میں کسی نے کہ ہم اسکو تیرے

فِيكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اِبَار

ساتھ شریک سمجھیں بابرکت ہے تو اور برتر ہے

لَهُ اللَّهُمَّ أَحْيَيْتَنِي مَسْكِينًا وَ

یا اللہ زندہ رکھنا مجھے مسکینوں میں اور

أَمَتْنِي مَسْكِينًا وَ أَحْشَرْتَنِي فِي

مارتا مجھے مسکینوں میں اور اٹھاتا مجھے

زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ اِبَار

مسکینوں کے گروہ میں

لئے
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۹۵ شمارہ ۳۶۸۷
 عن مصیب رنف
 جامع صغیر صری صغیر
 عن مصیب رنف
 حضرت کبیرؑ مروی
 ہے کہ اللہ عزوجل
 لست بالہ ان استخدا
 راد علیہ السلام پڑھا
 کہتے تھے
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۳۰۹ شمارہ ۵۱۲۳

۴۴
 جامع صغیر صری
 صفحہ ۱۶۱
 عن عبد بن حمید رنف
 و
 ابی سعید رنف



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ وِخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ

یا اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے توفیق

لِسَحَابِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ

تیرے بھندے اعمال کی اور

صِدْقِ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَ

سچے توکل کی تجھ پر اور

حُسْنِ الظَّنِّ بِكَ

نیک گمان کی تیرے ساتھ

لہ
 کتاب اعمال جبرائیل
 صفحہ ۱۹۴
 شمارہ ۳۶۶۵
 عن ابی ہریرہ رضی

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي آخِذٌ بِعُنُقِكَ

یا اللہ میں لیتا ہوں تجھ سے

عَهْدًا لَنْ تَخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا

ایک وعدہ کہ ہرگز نہ خلاف کرنا اس کے

أَنَا بَشَرٌ فَإِنَّمَا مَوْمِنٌ أَدْبَتُهُ

میں ہوں کہ بشر ہوں تو جو مسلمان کہ تکلیف

أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ

دو میں سے یا برا بھلا کہوں میں سے یا ماروں پیوں

لَعَنْتُهُ فَأَجْعَلْهَا لَهُ صَلَوةً

اسے یا بد دعا دوں اس کو تو کر دینا جو اس کو اس کے حق میں

وَزَكَاةً وَ قُرْبَةً لِّقُرْبَتِهِ بِهَا

رحمت اور پاکی اور ذریعہ قربت کا کہ مقرب بنائے تو اپنا اس

إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

کو جو اس کے دن قیامت کے

سبح
 ہاشم بن علی
 صفحہ ۱۱
 عن ابی ہریرہ رضی

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنْكَ
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بَعْدَهُ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ

یا اللہ کر دے اپنی محبت کو مرغوب تر تمام

الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ حَشِيَّتَكَ

چیزوں سے مجھے اور کر دے اپنے ڈر کو طرفدار

أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي

زیادہ تمام چیزوں سے میرے نزدیک

وَاقْطَعْ عَنَّا حَاجَاتِ الدُّنْيَا

اور قطع کر دے مجھ سے حاجتیں دنیا کی

بِالشُّوقِ إِلَى رِيقَاتِكَ وَإِذَا

شوق دے کر اپنی لاقاقت کا اور جبکہ

أَفْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا

بھنڈی کر دی ہیں تو نے اہل دنیا کی آنکھیں

مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي

ان کی دنیا سے تو بھنڈی کر دے میری آنکھ

مِنْ عِبَادَتِكَ

اپنی عبادت سے

ا بار

لَهُ اللَّهُمَّ ارْضِنِي بِقَضَائِكَ

یا اللہ راضی رکھ مجھے اپنے حکم پر

وَبَارِكْ لِي فِي مَا قَدَّرَ لِي

اور برکت دے مجھے میرے لئے اس چیز میں کہ مقرر کی گئی

حَتَّى لَا أَحِبَّ لِعَجْبٍ مَا

میرے لئے تاکہ نہ چاہوں میں جلد ملنا اس چیز کو کہ

لے
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۹۳
 شمارہ ۳۷۵۹
 عن ابن مالک الطحاوی
 جامع صغیر مصری
 صفحہ ۶۰
 عن ابن مالک الطحاوی

لے
 الخیر فی الاثر
 صفحہ ۱۹۳

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الطَّيِّبِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

آخِرَتْ وَلَا تَأْخِيرَ بَا

دیر میں رکھی ہے تو نے اور نہ دیر میں آنا اس چیز کا

عَجَلْتُ

ا بار

کہ جلد رکھی ہے تو نے

اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَكُلُوبَنَا
 وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ

اور اعطا ہمارے بڑے قبضہ میں ہیں نہیں

مَلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَاذَا

اختیار کامل دیا ہے تو نے ہمیں ان میں سے کسی چیز پر

فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا وَكُنْ أَنْتَ

جب سے تو نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے - تو تو ہی

وَلِيِّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ

ہے مددگار ہمارا اور دکھا ہمیں سیدھا

السَّبِيلِ

ا بار

راستہ

اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ)

اے اللہ رحم فرما حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت

رَحْمَةً عَامَّةً

ا بار

پہر رحمت عامہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 روایت ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ سب سے افضل دعا ہے کہ عجلت
 اللہم ارحمہ
 سب سے افضل دعا
 صفحہ ۱۹۶
 شمارہ ۱۳۷

الغزب الاکبر
 ملا علی قاری
 صفحہ ۱۸۰

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِكَ مَعْلُومٌ لَكَ وَبَعْدُ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَوَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا مَنْ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يَا مَنْ

حضرت ادريس عليه السلام کی عجا

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اے عزت و جلال والے اور اے بخشش والے

وَيَا ذَا الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا

تو ہے محبوب نہیں ہے مگر

أَنْتَ ظَهَرَ اللَّاجِبِينَ وَجَارِ

تو پناہ دھونڈنے والوں کی پشت پناہ تو ہے اور چڑوس

الْمُسْتَجِيرِينَ وَالنَّاسِ الْخَالِفِينَ

دھونڈنے والوں کا چڑوس تو ہے اور ڈرنے والوں کا ایس تو

إِنِّي أَسْأَلُكَ إِنْ كُنْتُ فِي

ہے بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میں لوح محفوظ

أَمْرٍ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَنْ تَحْوِيَ

میں بد بخت ہوں تو تو میری بد بختی

مِنْ أَمْرِ الْكِتَابِ شَقَايَ وَ

کہ مچ دے لوح محفوظ سے اور

تَشْبِئَنِي عِنْدَكَ سَعِيدًا وَ

اپنے کان بہک بخت کر کے بختہ طور بہ لکھ دے اور

إِنْ كُنْتُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ

اگر میں لوح محفوظ میں محروم

مَحْرُومًا مَقْتَرًا عَلَيَّ فِي

مقتس ہوں اپنے رزق

حضرت حسین بن علیؑ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہوں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے سنا ہے کہ حضرت انہوں نے کہا کہ ایک اور میں علیہ السلام کے دعا مانگا کرتے تھے جی کے متعلق دعا جو توڑوں تھے کہ یہ دعا جو توڑوں اس کے ذریعے سے وہیں مانگیں ہیں وہ کہتے تھے
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 وَيَا ذَا الطُّوْلِ
 تَنْزِيحًا لِحَدِيثِ
 صَحِيحٍ ۳۰ شَمَار ۵۰۹

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يَا رَحِيمُ

رِزْقِي أَنْ تَمْحُو مِنْ أُمَّرٍ

میں تو مٹا دے روح مغفرت

الْكِتَابِ حُرْمَانِي وَإِقْتَارِي

سے میری محرومی اور میری تنگی کو

وَأَرْزُقْنِي وَأَشْبِنْنِي عِنْدَكَ

اور مجھے رزق دے اور مجھے لگھڑے اپنے پاس

سَعِيداً مُوَفَّقاً لِلْخَيْرِ

خوش بخت، ایسا خوش بخت جس کو تمام بھلائیوں کی توفیق

كُلِّهِ

ابار

دسی تمہی ہو

کتاب اعمال حسد اول
 صفحہ ۱۹۵
 شمارہ ۲۶۹
 من مائتہ
 رضی اللہ عنہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِاسْمِكَ

اے اللہ! ہے شکر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس

الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْأَحْيِ

نام سے جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، مبارک ہے سب سے زیادہ بلند ہے

إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ

مجھ کو وہ نام جس کے ساتھ آپ سے دعا مانگی جائے تو آپ قبول فرماتے

وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَ إِذَا

ہیں اور جب اس کے ساتھ آپ سے سوال کیا جائے تو آپ عطا فرماتے ہیں اور جب

اسْتَرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَ إِذَا

اس کے ساتھ آپ کی رحمت مانگی جائے تو آپ رحم فرماتے ہیں اور جب اس کے ساتھ

اسْتَفْرَجْتَ بِهِ فَرَجْتَ

ابار

فراخی مانگی جائے تو آپ فراخی عطا فرماتے ہیں

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِزَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

الْفَجْرَ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ثابت قدمی

الْأَمْرِ وَ أَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرَّشْدِ

کام میں اور مانگتا ہوں تجھ سے عزم

وَ أَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَ حُسْنَ

اور مانگتا ہوں تجھ سے شکر گزارى تیری نعمت کی اور اچھی طرح سے کرنا

عِبَادَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا

تیری عبادت کا اور مانگتا ہوں تجھ سے سچ بولنے والی زبان

وَ قَلْبًا سَلِيمًا وَ خُلُقًا مُسْتَقِيمًا وَ

اور بے روگ دل اور درست اخلاق اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَ أَسْأَلُكَ

پناہ لیتا ہوں میں تیری اس چیز کی برائی سے جس کو تو جانتا ہے اور مانگتا ہوں تجھ سے

مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَ اسْتَغْفِرُكَ مِمَّا

بھلائی اس چیز کی جس کو تو جانتا ہے اور بخشش مانگتا ہوں میں تجھ سے اس گناہ کی

تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

جسے تو جانتا ہے بلاشبہ تو خوب جانتے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا

لَهُ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَ لَا تَنْقُصْنَا وَ أَكْرَمْنَا

اے اللہ ہمیں زیادہ دیکھئے گا اور ہمیں نقصان نہ پہنچائے گا اور ہمیں عزت دینا

۱۰۰ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ
 ۱۰۱ ثوبان رضی اللہ عنہ
 ۱۰۲ شریک بن ابی صالح
 ۱۰۳ حسان بن صالح
 ۱۰۴ حسن بن صالح
 ۱۰۵ صفحہ ۸-۱۰

۱۰۰ لشارون ابن رضی اللہ عنہ
 ۱۰۱ شریک بن ابی صالح
 ۱۰۲ ابن جابر بن حکم
 ۱۰۳ ابن ابی شیبہ
 ۱۰۴ حسن بن صالح
 ۱۰۵ صفحہ ۸-۱۰

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَبِينَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ حَلَقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يَا رَحِيمُ

وَلَا تَهِنَّا وَاعْطِنَا وَ لَا تَحْرِمْنَا

اور ہمیں ذلیل نہ کرنا اور ہمیں عطا کرنا اور ہمیں محروم نہ کرنا

وَ اِثْرِنَا وَ لَا تُؤَثِّرْ عَلَيْنَا وَ اَرْضِنَا

اور برتری و فضیلت عطا کرے اور نہ برتری دیکھو ہمارے اور کسی کو اور ہمیں راضی

وَ اَرْضِنَا

ابار رکھنا اور ہم سے راضی رہنا

لَهُ اللَّهُمَّ أَلْهِنِّي مُرْشِدِي وَاعْزِزِّي

اے اللہ ڈال دے میرے دل میں میری ہدایت اور ہٹا دے مجھے

مِنْ شَرِّ نَفْسِي

ابار میرے نفس کے شر سے

لَهُ اللَّهُمَّ قِنِّي شَرَّ نَفْسِي وَاعْزِمْنِي

اے اللہ بچالے مجھے میرے نفس کے شر سے اور ہمت دے مجھے

عَلَى رُشْدِ أَمْرِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا

کر اصلاح کروں اپنے کام کی اے اللہ بخش دے

أَسْرَرْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ وَ مَا أَخْطَأْتُ

میرے پوشیدہ گناہ اور میرے کلمے گناہ اور میرے نادانستہ گناہ

وَ مَا عَمَدْتُ وَ مَا جَهَلْتُ

اور میرے دانستہ گناہ اور جو میں نے نادانی کی

لَهُ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ اللَّهُ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا

ہائیکہ ہوں میں اللہ سے عافیت دنیا میں

وَ الْآخِرَةِ

ابار اور آخرت میں

لَهُ اللَّهُمَّ لِي فِي أَسْئَلِكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

اے اللہ میں ہائیکہ ہوں مجھ سے توفیق نیک کام کرنے کی

عہ ابن عباس رضی اللہ عنہما
تفسیر ص ۲۶

حصن حصین
صفحہ ۲۶۹

عہ ابن الدرداء رضی اللہ عنہ
تفسیر ص ۲۶، حاکم

حصن حصین
صفحہ ۲۶۹

عہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ
تفسیر ص ۲۶

حصن حصین
صفحہ ۲۶۹

عہ حصین بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
حاکم، نسائی، ابن ماجہ

حصن حصین
صفحہ ۲۶۹

رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا بَارِيَّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبِّ الْمَسَاكِينِ

اور برے کام بھوڑنے کی اور مسکینوں سے محبت کرنے کی

وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا

اور یہ کہ بخش دے تو مجھے اور رحم فرما تو مجھ پر اور جب

أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَقَّنِي غَيْرَ

تو اداہ کرے کسی قوم کی آزمائش کا تو اٹھالے مجھے بغیر

مَفْتُونٍ وَ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحَبَّ مَنْ

آزمائش کے اور مانگتا ہوں تجھ سے تیری محبت اور ان کی محبت جو تجھ

يُحِبُّكَ وَ حُبِّ عَمَلٍ يَقْرَبُ إِلَى حُبِّكَ

سے محبت کرتے ہیں اور اس عمل کی محبت جو قریب کر دے تیری محبت کے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے توفیق نیک کام کرنے کی

وَتَرَكِ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبِّ الْمَسَاكِينِ

اور برے کام بھوڑنے کی اور مسکینوں سے محبت کرنے کی

وَ إِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَأَبْضِنِي

اور جب تو چاہے لوگوں کو آزمانا تو قبض کر لے روح

إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

میری اپنی طرف بغیر آزمائش کے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبِّ

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیری محبت اور محبت

مَنْ يُحِبُّكَ وَ الْعَمَلِ الَّذِي يُبَلِّغُنِي

ان کی جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس عمل کی محبت جو پہنچا دے مجھے

حُبِّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ

تیری محبت تمک اے اللہ بنا دے تو اپنی محبت زیادہ محبوب مجھے

لے اہل کمال کو پہنچا کر حضور
 افس صلی اللہ علیہ وسلم دعا
 مانگتے تھے:
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
 فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
 وَحُبِّ الْمَسَاكِينِ
 وَ إِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ
 فِتْنَةً فَأَبْضِنِي
 إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

۴۰ ابن الدردار رضی اللہ عنہ
 ترمذی ۲۰۰۰، حاکم ۲
 تصحیح حسین
 صفحہ ۲۷۹

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنْكَ
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِزَّتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَىٰ نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا مُجِيبُ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَالِيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

مِنْ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مِنْ الْمَاءِ
 میری اپنی جان سے اور اپنے گھر والوں سے اور ٹھنڈے پانی سے

الْبَارِدِ
 ابار

لَهُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ
 اے اللہ عطا کر مجھے اپنی محبت اور ان کی محبت

يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ فَكَمَا
 جن کی محبت سے مجھے تیرے پاس اے اللہ جیسا کہ تو نے

رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحْبَبْتُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي
 دی میں مجھے میری پسند کی چیزیں اسی طرح بنا دے ان کو میری قوت

فِي مَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ وَ مَا زَوَيْتَ عَنِّي
 اپنی پسند کے کاموں میں اے اللہ اور جو کچھ دور رکھا ہے تو نے مجھ سے

مِمَّا أَحْبَبْتُ فَاجْعَلْهُ فِرَاعًا لِي فِي مَا تُحِبُّ
 میری پسند کی چیزوں میں سے تو ان کو بنا دے باعث فراغت میرے لیے اپنی پسند کی باتوں میں

لَهُ اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَعْيِي وَ بَصْرِي وَ
 اے اللہ بہرہ مند کر مجھے میرے کاعوں سے اور میری آنکھ سے اور

اجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي وَ انصُرْنِي عَلَى
 بنا دے ان کو وارث میرا اور مدد فرما میری

مَنْ يَظْلِمُنِي وَ خُذْ مِنْهُ بِشَأْرِي
 اس کے مقابلے میں جو ظلم کرتا ہے مجھ پر اور لے اس سے میرا انتقام

لَهُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى
 اے بدلنے والے دلوں کے جھا دے میرے دل کو اپنے

دِينِكَ
 دین پر

لے عبد اللہ بن عبد العزیز نے لکھی ہے

حصن حصین صفحہ ۲۸۰

لے ابو اسیر نے لکھی ہے

حصن حصین صفحہ ۲۸۰

لے ابو اسیر نے لکھی ہے

حصن حصین صفحہ ۲۸۰

رَبَّنَا
 تَقَاتِلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ
 اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِیْبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَمْرِی وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعِدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِیْنَةِ عَرْشِكَ وَوِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 بِاَمْرِی اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ

له اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ تَجْبِیْل
 عَافِیَتِكَ وَصَبْرًا عَلٰی بَلِیَّتِكَ
 وَخُرُوْجًا مِّنَ الدُّنْیَا اِلٰی
 رَحْمَتِكَ
 له اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ
 الْمُسْتَجِیْبِیْنَ الْغُرِّ الْمَجْلِبِیْنَ
 الْوَفْدِ الْمُسْتَقْبَلِیْنَ
 له اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
 فِتْنَةِ النِّسَاءِ وَاعُوْذُ بِكَ
 مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

له حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے اپنے بطن سے یہ دعا نکالی اور اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی اور ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بڑی پختہ اور بڑی ہنس مندی سے ہنس مندی کرتی تھی۔ اس دعا سے اس کی پختگی ہو گئی اور وہ بڑی ہنس مندی سے ہنس مندی کرتی تھی۔

بندوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے توبہ کی رحمت سے محروم نہ رہیں۔

عن محمد بن عیسیٰ بن عقیل عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عزوجل یغفر الذنوب الا العظيمة

ذَنْبًا تَقْبَلُ مِّنَّا
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
 اٰمِنِمْ اٰمِنِمْ اٰمِنِمْ یٰاَرْبَ الْعٰلَمِیْنَ

لے فقیر الفقیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور تبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے ہوئے تھے کہ اللہ عزوجل نے کس طرح اپنی رحمت سے عبادت کو قبول فرماتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترتهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا أُمِّي اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِمًا وَ

يا اللہ زندہ رکھ مجھے مسلمان اور

أَمِتْنِي مُسْلِمًا

مارنا مجھے مسلمان

لَهُ اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ

يا اللہ مٹھانپ لے مجھے اپنی رحمت میں

وَ جَنِّبْنِي عَذَابِكَ

اور بچانا مجھے اپنے عذاب سے

لَهُ اللَّهُمَّ حَصِّنْ قَلْبِي وَ

يا اللہ محفوظ کر دے میری سرنگاہ کو اور

يَسِّرْ لِي أَمْرِي

آسان کر دے مجھ پر میرا کام

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ

يا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے دھن کا

الْوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ

کمال اور نماز کا کمال اور

تَمَامَ رِضْوَانِكَ وَ تَمَامَ مَغْفِرَتِكَ

پوری خوشنودی کا کمال اور پوری مغفرت کا کمال

۳۰
 الخبیب الاظم
 علامت قرآنی
 صفحہ ۹۳-۱۹۳

۳۰
 الخبیب الاظم
 علامت قرآنی
 صفحہ ۱۹۵

۳۰
 الخبیب الاظم
 علامت قرآنی
 صفحہ ۱۹۳

۳۰
 الخبیب الاظم
 علامت قرآنی
 صفحہ ۱۹۱

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَالِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری

مِنْ شَرِّ الْأَعْمِيَيْنِ السَّبِيلِ

برائی سے دو اندھوں کی یعنی تُو اور

وَالْبَعِيرِ الصَّوْلِ

حمد آور ادب

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ایمان کہ

بِبَاشِرِ قَلْبِي وَبِيقِينًا صَادِقًا

بیخبرست ہو جائے میرے دل میں اور یقین سچا یہاں

حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي

تجھ کہ جان لوں کہ نہیں پہنچ سکتا ہے تجھ کو

إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرَضِنِي

تجھ جو تجھ کہ تو لکھ چکا ہے میرے لئے اور رمت اپنی

مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ

اس چیز کے ساتھ کہ مقسم میں لکھی تو نے میری معاش

لِي

میں سے

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي قُدْرَتِكَ

یا اللہ امن دے اپنی قدرت میں

وَادْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ وَأَقْضِ

مجھے اور داخل کر لے اپنی رحمت میں مجھے اور گزار

۴۰
کنز العمال جلد اول
صفحہ ۱۹۳ شمارہ ۳۲۲۸
عن ابن کثیر
جامع صغیر ص ۵۸

۴۰
کنز العمال جلد اول صفحہ ۱۹۳
شمارہ ۳۲۲۸
عن ابن کثیر

۴۰
کنز العمال جلد اول
صفحہ ۱۹۳ شمارہ ۳۲۲۸
عن عائشہ رزق بنت
نفا ص
جامع صغیر ص ۴۰

رَبَّنَا
تَقَاتِلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبُّ الطَّالِبِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ دُخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

أَجِبْنِي فِي طَاعَتِكَ وَأَحْتِمِ

دے اپنی طاعت میں میری عمر اور خاتمہ کر میرا

بِي بِخَيْرِ عَمَلِي وَأَجْعَلْ ثَوَابِي

میرے سب سے اچھے عمل پر اور کر دے ثواب

ابار

الْجَنَّةِ

اس کا جنت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ

اے اللہ ہے شک میں میری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے

وَالكُسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ وَالْهَرَمِ

اور سستی سے اور بزدلی سے اور بھل سے اور بڑھاپے سے

وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذَّلَّةِ

اور دل کی سختی سے اور غفلت سے اور محتاجی سے اور ذلت سے

وَالْمُسْكِنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ

اور مسکینی سے اور بیری پناہ مانگتا ہوں فقر سے اور

الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالتَّفَاقِ

کفر سے اور نافرمانی سے اور آپس کی دشمنی سے اور تفاق سے

وَالسَّمْعَةِ وَالرِّئَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ

اور سناوس سے اور دکھاوس سے اور بیری پناہ مانگتا ہوں بہرے

الصَّمِّ وَالْبُكْمِ وَالْجُنُونِ وَالْمُحْذَمِ وَ

پہن سے اور گونگا ہونے سے اور پاگل ہونے سے اور کورٹھ سے اور

الْبَرْصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

پھلپھری سے اور بری بیماریوں سے

ابار

رَبَّنَا

تَقَاتِلْ مِنَّا

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

۵۴
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۹۵
 شمارہ ۳۶۹۲
 عن ابن
 رضی اللہ عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَلِيْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

الإِشْرَاقُ

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عَيْنَيْنِ هَطَّائِيْنِ

اے اللہ نصیب کر مجھے آنکھیں برسنے والی

تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِدُرُوفِ الدَّمْعِ مِنْ

کہ میرا دل کو نلکتے ہوئے آنسوؤں سے تیرے

خَشْيَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الدَّمُوعُ دَمًا

خوف سے قبل اس وقت کے کہ ہو جائیں آنسو خون

وَالْأَرْضَ اسْ جَبْرًا

اور دارچھین انکار سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری

مِنْ خَلِيلٍ مَا كَرَّ عَيْنَاهُ

سلاہ دوست سے کہ آنکھیں تو

تَرَيَانِي وَقَلْبُهُ يَزْعَمَانِي إِنْ

اس کی نگہ دیکھتی ہوں اور دل اس کا پیچھے لیتا ہے اگر

رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِنْ

دیکھے بھلائی کو دبا دے اور اگر

رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا

دیکھے برائی تو ناشناس کر دے

إِبَار

لہ
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۶۴
 شمارہ ۳۶
 عن ابن عمر رَضِيَ

۵۲
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۶۴ شمارہ ۳۶
 عن ابی سہیل الخدری
 جامع صغیر ص ۹۱

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مَنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ وَخَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَالِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ایسا ایمان جو واپس نہ چلا جائے

وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةً نَبِيْنَا

اور ایسی نعمت جو ختم نہ ہو اور رفاقت اپنے نبی

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے

دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ

اوپر سے درجے جنت خالد میں

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے صحت

إِيْمَانٍ وَ إِيْمَانًا فِي حُسْنِ خَلْقٍ وَ

ایمان کے ساتھ اور ایمان حسین اخلاق کے ساتھ اور

بِنَاحَا تَتَّبِعُهُ فَلَاحًا وَ رَحْمَةً مِنْكَ

کا یہاں جس کے بعد لائے تو فلاح اور رحمت تیری طرف سے

وَ عَافِيَةً وَ مَغْفِرَةً مِنْكَ وَ رِضْوَانًا

اور عافیت و بخشش تیری طرف سے اور خوشنودی

لَهُ اللَّهُمَّ انْفَعِنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي

اے اللہ مجھے نفع دے اس علم سے جو تو نے مجھے سکھایا اور سکھانے وہ علم

مَا يَنْفَعُنِي وَ ارْزُقْنِي عِلْمًا تَنْفَعُنِي بِهِ

جو نفع دے مجھے اور عطا کر مجھے وہ علم جس سے نفع دیں تو مجھے

لَهُ اللَّهُمَّ انْفَعِنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي

اے اللہ نفع دے مجھے اس علم سے جو تو نے مجھے سکھایا اور سکھانے وہ علم

مَا يَنْفَعُنِي وَ زِدْنِي عِلْمًا أَحْمَدُ لِلَّهِ عَلَا

جو نفع دے مجھے اور زیادہ دے مجھے علم کہ لوگوں اللہ ہی کے لئے ہے،

۴۷
 علم انس رضی اللہ عنہ
 نائے، حاکم

حصن حصین
 صفحہ ۲۸۱

۴۸
 علم ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
 ترمذی، ابن ماجہ
 ابن ابی شیبہ

حصن حصین
 صفحہ ۲۸۲

۴۹
 علم ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 نائے، ابن ماجہ
 حاکم

حصن حصین
 صفحہ ۲۸۰

۵۰
 علم انس رضی اللہ عنہ
 نائے، حاکم

حصن حصین
 صفحہ ۲۸۰



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا مَنْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

كُلِّ حَالٍ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالٍ

ہر حال میں اور پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی دوزخ والوں

أَهْلُ السَّائِرِ

کی حالت سے

لَهُ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ

اسے اللہ بواسطہ اپنے عالم الغیب ہونے کے اور بواسطہ اپنی قدرت کے

عَلَى الْخَلْقِ أَحْبَبْنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ

مخلوق پر زندہ رکھو مجھے جب تک میرے علم میں زندہ رہنا

خَيْرًا لِي وَ تَوْفَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ

بہتر ہو میرے لیے اور اٹھا رکھو مجھے جب میرے علم میں امٹ لینا

خَيْرًا لِي وَ أَسْأَلُكَ خَشِيَّتِكَ فِي

بہتر ہو میرے لیے اور مانگتا ہوں میں تجھ سے تیری خشیت

الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ

باطن میں اور ظاہر میں اور بتِ خلاص کی

فِي الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ أَسْأَلُكَ نِعِيمًا

رضعت مسندی میں اور غصتے میں اور مانگتا ہوں میں تجھ سے انعمت

لَا يَنْفَدُ وَ قِرَّةَ عَيْنٍ لَّا تَنْقَطِعُ وَ

جو ختم نہ ہو اور آنکھوں کی وہ ٹھنڈک جو منقطع نہ ہو اور

أَسْأَلُكَ الرِّضَى بِالْقَضَاءِ وَ بَرْدَ

مانگتا ہوں تجھ سے تسکین و رضای تو فریق (تیرے) فیصلے پر اور پُر لطف

الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ لَذَّةَ النَّظَرِ

زندگی موت کے بعد اور لذت دیدار

إِلَى وَجْهِكَ وَ الشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ وَ

تیرے رخِ زیبائی کی اور تڑپ تیری ملاقات کی اور

لے عمارتیں اسرارِ شریف
 نمانے حکم
 احمد
 طرانی

حصہ
 صفحہ ۲۸۲

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنْكَ
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ

پناہ لیتا ہوں میں تیری آزار دینے والی سختی سے اور گمراہ کرنے

مُضَلَّةٍ اللَّهُمَّ نَزِيْنًا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ

والے نغنے سے اے اللہ آراستہ کر ہمیں ایمان کی زینت سے

وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْتَدِيْنَ اَبَار

اور بنا دے ہمیں ایسے رہنما جو ہدایت یافتہ ہوں

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ہر بھلائی فوری ہونے والی

وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ

اور دیر سے ہونے والی وہ جس کا مجھے علم ہے اور وہ جس کا

أَعْلَمُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ

مجھے علم نہیں ہے اور پناہ لیتا ہوں میں تیری ہر بُرائی سے

عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا

جلد ہونے والی سے اور دیر سے ہونے والی سے جس کا مجھے علم ہے اور جس کا

لَمْ أَعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ

مجھے علم نہیں ہے اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے وہ

خَيْرٍ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَ نَبِيُّكَ وَ

بھلائی جو مانگی ہے تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَادَ مِنْهُ

پناہ لیتا ہوں میں تیری اس بُرائی سے جس سے پناہ لی تیرے

عَبْدُكَ وَ نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

بندے اور تیرے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے

الْجَنَّةَ وَ مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ

جنت اور جو قریب کر دے اس کے قول جو

لے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 ابن ماجہ ابن حبان صحیح مسلم

حصن
 صفحہ ۲۸۳

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَىٰ نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

أَوْ عَمَلٍ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَ

یا فعل اور پناہ لیتا ہوں میں تیری دوزخ سے اور

مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَ

جو قریب کر دے اس کے قول ہو یا فعل اور

أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَائِي خَيْرًا

مانگتا ہوں میں تجھ سے کہ کر دیسے تو اپنا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر

وَ أَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ

اور درخواست کرتا ہوں میں تجھ سے کہ جو فیصلہ کرے تو میرے حق میں کسی بھی کام کا تو

تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ مُرَشِّدًا

کر دے تو اس کا انجام اچھا

لَهُ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ

اے اللہ بہتر کر دے انجام ہمارے تمام کاموں کا

كُلِّهَا وَ اجْرِنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَ

اور اپنی پناہ میں لے لے ہمیں دنیا کی کوسوائی سے اور

عَذَابِ الْآخِرَةِ

آخرت کے عذاب سے

أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ وہ حق ہے بے شبہ

وَأَنَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَأَنَّ السَّاعَةَ

اور بے شک وہ زندہ کرنے اور مارنے والا ہے اور بے شک قیامت

آتية لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ

آجوتی ہے اس (کے آنے) میں کوئی شک نہیں اور بے شک اللہ فرودیں

مَنْ فِي الْقُبُورِ

دفن ہونے والوں کو زندہ کرے گا

۴ بار

لے بسیرت ابن ابی اسحاق
ابن جانح و محکم

حسن
صفر ۱۲۸۱

لے
حضرت ابن سیرت سے روایت
ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا جو شخص ہر روز
میں پڑھے اس کے لئے
کہ تو اللہ تعالیٰ اس کو
سے برائی رستہ کو
دور کر دے گا
استخدا ان اللہ ہو
الحق المبین
کنز العمال جلد اول
صفحہ ۱۲۸۱ و ۱۲۸۲

رَبَّنَا
تَقَاتِلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
يَعْدِدُ كُلَّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
يَا أَيُّهَا اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

الضُّحَى

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس حیوان کی

مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْ شَرِّ

برائی سے کہ پیٹ کے بل چلتا ہے اور اس حیوان کی

مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْ شَرِّ

برائی سے کہ دو پیروں سے چلتا ہے اور اس حیوان کی

مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ

برائی سے کہ چار پیروں سے چلتا ہے

۱ بار

لَهُ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلَامِ قَائِمًا وَ

اے اللہ قائم رکھ مجھے اسلام پر اٹھتے ہوئے اور

احْفَظْنِي بِالإِسْلَامِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِي

قائم رکھ مجھے اسلام پر بیٹھتے ہوئے اور قائم رکھ مجھے

بِالإِسْلَامِ رَاقِدًا وَ لَا تُشْمِتْ بَنِي

اسلام پر لیٹتے ہوئے اور نہ موقع دے طعنہ دینے کا میرے اور

عَدُوًّا وَ لَا حَاسِدًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

دشمن کو اور نہ حاسد کو اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ

۱۰
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۳۸۰۲
 عن ابن عباس

۴
 حضرت عمر رضی اللہ عنہما
 حاکم ۲، ابن ماجہ ۲۰

حسن حسین
 صفحہ ۲۸۲

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنْكَ
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ

ہر اس بھلائی کا جس کے خزانے تیرے ہفتہ قدرت میں ہیں

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

اے اللہ میں ہنسنا ہوتا ہوں تیری اس چیز کے شر سے

أَنْتَ أَخَذْتَ بِنَاصِيئِهِمْ وَأَسْأَلُكَ مِنْ

جس کو پھڑپھڑے ہوئے ہے تو پھوٹی سے اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے

الْخَيْرِ الَّذِي هُوَ بِيَدِكَ كُلِّهِ

اس بھلائی کا جو تمام تر تیرے ہی دست قدرت میں ہے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

اے اللہ ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب

وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ

اور تیری مغفرت کے سامان اور سلامت رہنا

كُلِّ إِثْمٍ وَ الْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَدْرٍ

ہر گناہ سے اور غنیمت جمانا ہر نیکی کو

وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ

اور پالینا جنت کا اور بچ جانا دوزخ سے

لَهُ اللَّهُمَّ لَا تَدَاعُ لَنَا ذُنُوبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ

اے اللہ نہ چھوڑو ہمارا کوئی گناہ مگر اسے بخش کر

وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا دَيْئًا

اور نہ کوئی ہمت مگر اسے دور فرما کر اور نہ کوئی دشمن

إِلَّا قَضَيْتَهُ وَ لَا حَاجَةَ مِنْ حَوَائِجِ

مگر اسے ادا کر کے اور نہ کوئی حاجت دنیا کی حاجتوں

الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ

میں سے اور آخرت کی مگر اسے پورا کر کے اے تمام رحم کرنے والا

۱۰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
ابن عباس

صحن حسین
صفحہ ۲۸۲

۱۱ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
حاکم
طبرانی

صحن حسین
صفحہ ۲۸۲

۱۲ حضرت انس رضی اللہ عنہ
طبرانی فی الکبیر المعجم

صحن حسین
صفحہ ۲۸۲

رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ يَا رَبِّ الطَّالِبِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ دُخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْتَ مَا اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

السَّارِحِينَ

ابار

رحم کرنے والے !

لَهُ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ

اے اللہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر کرنے اور شکر کرنے

وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ

ابار

اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے میں

لَهُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ

اے اللہ مدد فرما میری اپنے ذکر کرنے اور شکر کرنے

وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ

ابار

اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے میں

لَهُ اللَّهُمَّ قِنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي

اے اللہ تاج کر دے مجھے اس پر جو تو نے مجھ پر دیا ہے اور بک عطا فرما

فِيهِ وَ أَخْلَفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي

اس میں اور بدلہ عطا فرما ہر گمشدہ چیز کا مجھ

بِخَيْرٍ

ابار

بہتر

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَيْشَةً نَقِيَّةً

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے پاکیزہ زندگی کا

وَمَيِّتَةً سَوِيَّةً وَ مَرَدًّا غَيْرَ مَحْزُونٍ

اور راستی والی موت کا اور ایسی زندگی کی طرف لوٹنے کا جس میں رونا

وَ لَا فَاضِحٍ

ابار

اور فضیحت نہ ہو

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقْوِي رِضَاكَ

اے اللہ میں کمزور ہوں قوت عطا فرما اپنی رضا کے حصول کے لیے

لے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
حاکم، صحیحین

صفحہ ۲۸۵

لے ابو بکر رضی اللہ عنہ
بزار، صحیحین

صفحہ ۲۸۵

لے ابو بکر رضی اللہ عنہ
حاکم، صحیحین

صفحہ ۲۸۵

۵۴ ابن عمر رضی اللہ عنہما
حاکم، صحیحین

صفحہ ۲۸۵

۵۵ بید بن خضیب رضی اللہ عنہ
حاکم، ابن ابی شیبہ، صحیحین

صفحہ ۲۸۵

رَبَّنَا
تَقَاتِلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَضَىٰ نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

ضَعْفِي وَ خُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي

میری کمزوری کو اور پکڑ کر لے جا بھلائی کی طرف مجھے چھٹی دے

وَ اجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَىٰ رِضَايَ

اور بنا دے اسلام کو میری پسند کی انتہی

اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقْوِي وَ إِنِّي

اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوت دے اور میں

ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَ إِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي

ذلت میں ہوں مجھے عزت دے اور میں محتاج ہوں مجھے رزق دے

لَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا شَيْءَ قَبْلَكَ

اے اللہ تو ہی اول ہے کوئی چیز نہیں ہے تجھ سے پہلے

وَ أَنْتَ الْآخِرُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَكَ

اور تو ہی آخر ہے کوئی چیز نہیں ہے تیرے بعد

أَعُوذُ بِكَ مِنْ (شَرِّ) كُلِّ دَابَّةٍ نَاصِيَتِهَا

پناہ لیتا ہوں میں تیری زمین پر ہر اس چلنے والے کے شر سے جس کی چوٹی

بِيَدِكَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِثْمِ وَالْكَسَلِ

تیرے دست قدرت میں ہے پناہ لیتا ہوں میں تیری گناہ سے اور کاہلی سے

وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ

اور قبر کے عذاب سے اور قبر کے فتنے سے اور

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَ السَّغَرِ

پناہ لیتا ہوں میں تیری گناہ سے اور دوزخ سے

اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا نَقَّيْتَ

اے اللہ پاک کر دے مجھے میرے گناہوں سے جیسا کہ پاک و صاف کیا ہے تیرے

الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ

سفید کپڑے کو سمیٹیل پھیل سے اے اللہ

لے آئے مسلمان رضی اللہ عنہما
 بلاتنی کی البیرو الاوسط

حسن حسین
 صفحہ ۱۲۷

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
 اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَمِيِّ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ وَبَعْدَ وُجُوْدِكَ وَرَضِيَ نَفْسِكَ وَزَيَّنَّ عَرْشَكَ وَمَدَّ كَلِمَاتِكَ
 يَا لِيْٓ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ ۝

بَاعِدُ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا

دوری ڈال دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جس طرح

بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَبَا

دوری ڈالی توتنے مشرق اور مغرب کے درمیان

لَهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ

اللہ سب سے بڑا ہے

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے

سُبْحَانَ رَبِّ اَلْاَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ اَبَا

پاک ہے رب پہلوں کا اور پچھلوں کا

لَهُ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اے اللہ تمام آسمانوں اور زمینیوں کو پیدا کرنے

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا اِلٰهَ

وائے غیب اور ظاہر کے جاننے والے میرے سوا کوئی

اِلَّا اَنْتَ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَّ مَلِيْكَهُ

عبادت کے لائق نہیں آپ ہر چیز کے ہمدر دگار ہیں اور اس کے ہادشا

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَّمِنْ شَرِّ

ہیں میں تیرے پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کی شرارت سے اور شیطان

الشَّيْطٰنِ وَشَرِّكَهٖ وَاَنْ اَقْتَرِفَ

کی شرارت سے اور اس کے شرک سے اور اس بات سے کہ میں

عَلٰی نَفْسِيْ سُوْءًا اَجْرَةً اِلٰی

کوئی گناہ تو خود کروں اور اس کو کسی مسلمان کے سرنگا دوں

مُسْلِمٍ اَبَا

حضرت ابن ابی شیبہ نے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک انیسویں سال کے بھائی کو دکھایا اور انہوں نے کہا کہ اسے پڑھو اور وہ اسے پڑھ کر کہتا ہے کہ اے میرے رب میں نے خود اپنے آپ کو بھلائیوں سے بچانے کے لیے اس دعا کو پڑھا ہے۔

ملے کن اعمال جلد اول صفحہ ۱۹۰ شمارہ ۲۰۰۰ مرقا ابن عسکری رضا اشرفی

کنز العمال جلد اول صفحہ ۲۰۳ شمارہ ۲۰۰۰

رَبَّنَا تَقَاتِلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
 اٰمِنْ اٰمِنْ اٰمِنْ يَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِرِضْوَانِكَ

اللَّهُمَّ بَعِّمْنَا الْغَيْبَ وَقُدِّرْ لَنَا

اسے اللہ اپنے علم غیب کے وسیلے سے اور مخلوق پر اپنی

عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ

قدرت کے وسیلے سے بھی زندہ رکھ جب تک آپ میرے لئے زندگی

خَيْرًا لِي وَتُوفِنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ

بہتر جانیں اور مجھے وفات دیں جب میرے لئے وفات کو

خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ

بہتر سمجھیں اسے اللہ اور میں آپ سے آپ کا خوف مانگتا ہوں۔

فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ

لوگوں سے غائب ہونے کی حالت میں اور لوگوں کے سامنے اور آپ سے سوال کرنا

كَلِمَةَ الْإِحْلَاصِ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ

ہوں ایخلاص کی بات رضا مندی اور غصہ کی حالت

وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ

میں اور آپ سے مانگتا ہوں درمیانی حال فقر

وَالْغِنَاءِ وَأَسْأَلُكَ نِعْمًا لَا يَنْفَدُ وَ

اور دو نعمتی ہیں اور آپ سے مانگتا ہوں ایسی نعمتیں جو ختم نہ ہوں اور

أَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ وَالرِّضَاءَ

مانگتا ہوں آنکھوں کی ٹھنڈک جو بس نہ ہو اور نعمت پرہیز

بِالْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ

راضی ہو جانا اور آپ سے مانگتا ہوں اچھی زندگی موت

بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ

کے بعد اور مانگتا ہوں نظر کی لذت آپ

إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي

کے چہرہ مبارک کی طرف اور شوق آپ کی ملاقات کا

گزشتہ شمارہ
 جلد اول
 صفحہ ۱۹۲
 شمارہ ۳۶۲۱
 عن عبدالرحمن ياسر
 رضى الله عنه

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْتِي اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

عَيْرُ صَرََاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ

بغير نقصان دینے والی تکلیف کے اور بیزیر گمراہ کرنے والے

مُحْضَلَةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ

فتنہ کے اسے اللہ زینت بخشنے میں ہمیں ایمان کی

وَأَجْعَلْنَا هُدًى مَهْتَدِينَ

اور ہمارا ہدایت کرنے والے ہدایت یافتہ

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبِصْرِي حَتَّى

اسے اللہ طبع دے مجھ کو میرے کانوں سے اور میری آنکھوں سے جہاں تک

تَجْعَلَهَا الْوَارِثَ مِنِّي وَعَافِنِي فِي دِينِي وَ

کہ ان کو میرا وارث بنا اور عافیت دے مجھ کو میرے دین میں اور

فِي جَسَدِي وَالصَّرْفِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي حَتَّى

میرے جسم میں اور بدو کہ میری اسی شخص کے مقابلے میں جو مجھ پر ظلم کرے

تَرِيْنِي فِيهِ تَارِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ

جہاں تک کہ دکھائے مجھ کو اس شخص میں میرا بدلہ اسے اللہ ہے شک میں نے سپرد

نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَ

کی اپنی جان تیری طرف اور سپرد کیا اپنا معاملہ (کام) تیری طرف اور

الْحَيَاتُ ظَهَرْتُ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي

جھکا یا اپنی کر کو تیری طرف اور متوجہ کیا اپنے چہرے کو

إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ

تیری طرف کوئی ٹھکانا نہیں مگر تیری ہی طرف میں ایمان لایا تیرے

بِرَسُولِكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ وَبِكِتَابِكَ

رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جس کو آپ نے بھیجا اور تیری کتاب پر

الَّذِي أَنْزَلْتَ

جو آپ نے اتاری

ابار

۱۹۲
 شمارہ ۲۶۲
 عن علی الرضی
 رضی اللہ عنہ

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَوَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ أَلْفِ سَأَلٍ مَا

اے اللہ ہے شک ہیں آپ نے سلامت رکھا ہمارے نفسوں سے

لَا تَمْلِكُهُ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ فَأَعْطِنَا

جس کے ہم مالک نہیں مگر تیری مدد سے اے اللہ پس عطا کر ہم کو ہمارے

مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنَّا

نفسوں سے وہ بات جو آپ کو ہم سے راضی کر دے

اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَجَوَارِحَنَا

اے اللہ ہے شک ہمارے دل اور ہمارے اعضا تیرے

بِيَدِكَ لَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَإِذَا

قبضہ میں ہیں آپ نے ہمیں اس میں سے کسی چیز کا مالک نہیں بنایا پس جب

فَعَلْتَ ذَلِكَ بِهَا فَأَنْتَ وَلِيِّهَا

آپ ان اعضاء کے ساتھ یہ کریں یعنی ہمیں اختیار دیدیں تو آپ ہی اس کے مالک ہیں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا

اے اللہ میں تجھ سے عہد لیتا ہوں - تو مجھ سے ہرگز اس کا

لَنْ تَخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا

خلاف نہ کرے گا۔ اس میں تو قسم ہی نہیں کر میں ایک بشر ہوں۔ تو

مُؤْمِنٍ أَذْيْتَهُ أَوْ شَتَمْتَهُ أَوْ

جس کسی مؤمن کو میں نے تکلیف دی ہو۔ یا اس کو برا بھلا کہہ دیا ہو یا

جَدَلْتَهُ أَوْ لَعَنْتَهُ فَاجْعَلْهَا لِي

اس کو کور سے لگانے کا حکم دے دیا ہو۔ یا بے حرمت کی بنا پر اس پر

صَلَاةً وَزَكَاةً وَتَرَبَّةً تَقْرِبُهُ

لعنت کی ہو تو اس کے حق میں تو اس کو رحمت پائی اور ایسی

بِهَا إِلَيْكَ

قرابت کا ذریعہ بنا دے کہ اسکی وجہ سے تو اس کو اپنا مقرب بنا لے

لے
کنز العمال جلد اول
صفحہ ۱۹۳
شمار ۳۶۳۶
عن ابی جریج
رضی اللہ عنہ

لے
کنز العمال جلد اول
صفحہ ۱۹۳
شمار ۳۶۵۵
عن جابر
رضی اللہ عنہ

لے
ترتیب الادعیہ
طائفتی قاری دار
صفحہ ۹۲-۱۹۱

وَبِنَا
تَقَاتِلْ مَنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ الْعَلِيمُ
الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ يَا رَبِّ الطَّيِّبِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا رَبِّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ بِاللَّهِ اسْتَجِدُّ

اے اللہ ہے شک آپ ایسے مہربان نہیں ہیں کہ میں آپ کی

تثانک وَلَا يَرْبِّ يَسِيدُ ذِكْرُهُ وَ

نئی تعریف کی ہے اور نہ آپ ایسے رب ہیں کہ آپ کا ذکر ختم ہو جائے اور

لَا كَانَ مَعَكَ إِلَهٌ سَدَّ عَوْهُ وَ

نہ آپ کے ساتھ کوئی اور مہربان ہے جس کو ایم پٹا رہی اور

نَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ وَلَا أَعَانِكَ عَلَى

اس کی طرف گریہ زاری کریں اور نہ مدد کی ہے آپ کی کسی نے آپ

خَلْقِكَ أَحَدٌ فَنَشْكُ فَيْكَ

کے پیدا کرنے پر یہ ہم شک کریں تیرے بارے میں

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

اے اللہ ہے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی

مَا تَجِبِي بِهِ الرُّسُلُ وَشَرِّ مَا تَجِبِي

برائی سے جس کو لاتے ہیں تیرے پیچھے ہوتے فرشتے اور اس چیز کی برائی

بِهِ الرِّيحُ

سے جسے ہوا لے کر آئے

لَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَ

اے اللہ کر تو میری آنکھوں میں نور اور

اجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَ اجْعَلْ فِي

کر تو میرے کانوں میں نور اور کر تو میری زبان

لِسَانِي نُورًا وَ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَ

میں نور اور کر تو میرے دل میں نور اور

اجْعَلْ عَن يَمِينِي نُورًا وَ اجْعَلْ عَن

کر تو میرے دائیں نور اور کر تو میرے

۷۰
گزشتہ اعمال جلد اول
صفحہ ۱۹۸
شمار ۳۷۵۲

عن صاحب
رضی اللہ عنہ

۷۰
گزشتہ اعمال جلد اول
صفحہ ۱۹۸
شمار ۳۷۵۲

عن ابن عباس
رضی اللہ عنہما

۷۰
گزشتہ اعمال جلد اول
صفحہ ۱۹۸
شمار ۳۷۵۲
عن ابن عباس
رضی اللہ عنہما

رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
الْمُؤْمِنِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْحِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

شِمَالِي نُورًا وَأَجْعَلْ مِنْ أَمَامِي

بائیں نور اور کہ تو میرے آگے

نُورًا وَأَجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا وَأَجْعَلْ

نور اور کہ تو میرے پیچھے نور اور کہ تو

مِنْ فَوْقِي نُورًا وَأَجْعَلْ مِنْ أَسْفَلِ

میرے اوپر نور اور کہ تو مجھ سے نیچے

مِنِّي نُورًا وَأَجْعَلْ لِي يَوْمَ لِقَائِكَ

نور اور کہ تو میرے لئے پیری ملاقات

نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا

ابار

کے دن نور اور بڑا کہ تو میرے لئے نور

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي اللَّهُمَّ اهْدِنِي

ابار

اے اللہ رزق دے مجھ کو اے اللہ ہدایت دے مجھ کو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَطْنٍ لَا

اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے پیٹ سے جو

يَشْبَعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلْوَةٍ لَا تَنْفَعُ

نہ سیر ہو اور تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی نماز سے جو نہ نفع دے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَ

اور تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ

ابار

تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو تیری طرف نہ بھکے

اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْبَاسِ وَ

اے اللہ نہ رسوا کرنا مجھ کو سستی کے دن اور

لَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ابار

درسوا نہ مانجے قیامت کے دن

۱۰۸
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۳۷۵
 شمارہ ۱۹۸
 عن ابن عباس
 رضی اللہ عنہ

۱۰۸
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۳۷۵
 شمارہ ۱۹۸
 عن ابن عباس
 رضی اللہ عنہ

۱۰۸
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۳۷۵
 شمارہ ۱۹۸
 عن ابن عباس
 رضی اللہ عنہ

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَمِّرْتَهُ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِرِضَى

لَهُ اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا

اسے اللہ نہ رسوا فرما ہم کو قیامت کے دن اور نہ

تَفْضَحْنَا يَوْمَ الْلِقَاءِ

رسوا کر ہم کو اپنی ملاقات کے دن

لَهُ اللَّهُمَّ أَعِزَّنِي بِالْعِلْمِ وَزَيَّنِي

اسے اللہ عظمیٰ کر دے مجھ کو علم کے ساتھ اور زینت بخش مجھے

بِالْحِلْمِ وَكَرَّمَنِي بِالتَّقْوَى وَ

مجھے مجال عطا فرما اور مجھے عزت بخش تقویٰ کے ساتھ اور

جَمِّلَنِي بِالْعَافِيَةِ

مجھے مجال عطا فرما عافیت کے ساتھ

لَهُ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي قُدْرَتِكَ وَأَدْخِلْنِي

اسے اللہ عافیت بخش مجھ کو اپنی قدرت میں اور داخل مجھ

فِي رَحْمَتِكَ وَأَقْضِ أَجَلِي فِي طَاعَتِكَ وَ

کو اپنی رحمت میں اور پوری کر میری عمر اپنی فرمانبرداری میں اور

اخْتِمْ لِي بِخَيْرِ عَمَلِي وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ

خاتمہ فرما میرا میرے اچھے عملوں کے ساتھ اور کر ثواب اس کا

الْجَنَّةِ

جنت

لَهُ اللَّهُمَّ امِنْ رَوْعَتِي وَاسْتَرْعُورَتِي

اسے اللہ امن دے میری گھبراہٹ کو اور پردہ ڈال میرے پیوں پر

وَاحْفَظْ أَمَانَتِي وَأَقْضِ دِينِي

اور حفاظت کر میری امانت کی اور ادا فرما دے میرا دین

لَهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَأْخُذُ الرُّوحَ مِنْ

اسے اللہ ہے شک آپ جلتے ہیں روح کو پتھوں

۳۴
گزشتہ اعمال جلد اول
صفحہ ۱۹۸
شمار ۳۴۶۰
عن ابن عمر
رضی اللہ عنہ

۳۴
گزشتہ اعمال جلد اول
صفحہ ۱۹۸
شمار ۳۴۶۱
عن حنظلہ بن عبد اللہ
رضی اللہ عنہ

۳۵
گزشتہ اعمال جلد اول
صفحہ ۱۹۹
شمار ۳۴۸۰
عن طلحہ بن ابان
رضی اللہ عنہ

۳۴
گزشتہ اعمال جلد اول
صفحہ ۱۹۸
شمار ۳۴۶۰
عن ابی ترصافہ
رضی اللہ عنہ

۳۴
گزشتہ اعمال جلد اول
صفحہ ۱۹۸
شمار ۳۴۶۹
عن ابن عمر
رضی اللہ عنہ

رَبَّنَا
تَقَاتِلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْتَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بَيْنَ الْعَصَبِ وَالْقَصْبِ وَالْآنَا مِل

اور انہوں اور انہیوں کے درمیان سے

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى الْمَوْتِ وَ

اے اللہ میری مدد فرما موت کے مقابلے میں اور

هَوْنَهُ عَلَى

آسان فرما تو اس کو مجھ پر

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعِيذُكَ مِنْ

اے اللہ ہے شک میں ان سب کو آپ کی پناہ میں دیتا

الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ وَالْفَقْرِ الَّذِي

ہوں کفر سے اور گمراہی سے اور فقر سے جو انسانوں

يُصِيبُ بَنِي آدَمَ

ابار

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ

اے اللہ ہے شک میں پناہ لیتا ہوں آپ کے بزرگ چہرے کی

وَأَسْمِكَ الْعَظِيمِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ

اور آپ کے عظمت والے نام کی کفر سے اور فقر سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ

اے اللہ شان میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے بزرگ چہرے

وَأَمْرِكَ الْعَظِيمِ أَنْ تَجِيرَنِي مِنْ

رفات کے عظیم سے اور آپ کے عظمت والے حکم کے وسیلے سے یہ کہ آپ مجھے

الْكَاثِرِ وَالْكُفْرِ وَالْفَقْرِ

مغزوں سے اور کفر سے اور فقر سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ

اے اللہ ہے شک میں پناہ مانگتا ہوں . ہر سے ہن سے

۱۹۹
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۱۹۹
 کنز العمال جلد اول
 عن ابیہ
 عن ابیہ
 رضی اللہ عنہما

۱۹۹
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۱۹۹
 کنز العمال جلد اول
 عن ابیہ
 عن ابیہ
 رضی اللہ عنہما

۱۹۹
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۱۹۹
 کنز العمال جلد اول
 عن ابیہ
 عن ابیہ
 رضی اللہ عنہما

۱۹۹
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۱۹۹
 کنز العمال جلد اول
 عن ابیہ
 عن ابیہ
 رضی اللہ عنہما

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 أَنْتَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدْوِكُمْ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

وَالْبِكْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْشِرِ وَ

اور گونگا ہونے سے اور پناہ چاہتا ہوں میں تیری گمراہی سے اور

الْمَغْرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الْعَمْرِ

قرضے سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری عمر کی موت سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الْهَمِّ وَأَعُوذُ

اور پناہ مانگتا ہوں تیری فکر کے موت سے اور پناہ

بِكَ مِنْ مَوْتِ الْهَمِّ وَأَعُوذُ بِكَ

مانگتا ہوں تیری فکر کے مرنے سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری

مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بَشَسَ الصَّحِيحِ وَ

بھوک سے پس ہے شک یہ بہت برا ہے ساقی (پاس لینے والا) اور

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بَلَّسَتْ

پناہ مانگتا ہوں تیری خیانت سے پس ہے شک یہ بہت بری ہے

الْبِطَانَةِ

ابار

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ

اے اللہ میں نے شک آپ سے سوال کرتا ہوں توبہ

بِمَحَابَّتِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصَدَقَ

آپ کے پیار سے عملوں کی (اور سچا توکل (بھروسہ)

التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحَسَنَ الظَّنِّ بِكَ

آپ پر اور اچھا گمان آپ کے متعلق

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ

اے اللہ! ہے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے پیار سے

الْحَسَنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ

ناموں کے فضیلت سے جو میں جانتا ہوں ان میں سے اور جو میں نہیں جانتا

۷۰
 کثیر العمل جبار اول
 صفحہ ۱۹۹
 شمار ۳۷۸۹
 من الابرار
 رضی اللہ عنہم

۷۰
 کثیر العمل جبار اول
 صفحہ ۲۰۰
 شمار ۳۷۹۵
 من الحسن
 رضی اللہ عنہم

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

وَبِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ وَبِاسْمِكَ

اور آپ کے عظمت والے نام کے طفیل جو سب سے بڑا ہے اور آپ

الْكَبِيرِ الْأَكْبَرِ

ابار کے اس نام کے طفیل سے جو بڑا ہے سب سے بڑا ہے

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتِي فِي الْأُمُورِ

اے اللہ اچھا کر بہرے انجام کو تمام کاموں میں

كُلِّهَا وَأَجِرْنِي مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَ

اور مجھے پناہ دے دنیا کی رسوائی اور

عَذَابِ الْآخِرَةِ

ابار آخرت کے عذاب سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ

اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اچانک موت

الْفَجَاءَةِ وَمِنْ لُدِّ غِ الْحَيَاةِ وَمِنْ

سے اور سانپ کے کاٹنے سے اور دردوں

السَّبْعِ وَمِنْ الْحَرَقِ وَالْفَرَقِ وَمِنْ

سے اور جل جانے سے اور ٹوٹ جانے سے

أَنْ أَخْرَجَ عَلَيَّ شَيْئٌ أَوْ يَخْرَجَ عَلَيَّ

اور اس بات سے کہ میں کسی چیز پر گر پڑوں یا مجھ پر کوئی چیز گر

شَيْئٌ وَمِنْ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الرَّحْفِ

پڑے اور قتل ہونے سے شکر کے بھاگنے کے وقت

حضرت بوسری رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ
 فرمایا حضرت انس
 علی اللہ علیہ وسلم نے
 کہ میں شخص کی دنیا
 کو نجات دہنے سے
 دو وصیئت پڑھنے سے
 پہلے مرے گا۔
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۹۸ شمارہ ۲۰۰

کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۲۰۰
 عن ابن عمر
 رضی اللہ عنہما



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

الزَّوَالِ

لَهُ اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ

اسے اللہ پیدا کرنے والے صبح کے اور رات کے

اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

راحت بنانے والے اور سورج اور چاند کو حساب

حُسْبَانًا اِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي

سے چلانے والے ادا کر تو قرض میرا اور غنی کر تو

مِنَ الْفَقْرِ وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي

مجھ کو محتاجی سے اور فائدہ دے مجھ کو میرے کان اور دیکھ

وَقُوَّتِي فِي سَبِيلِكَ

سے اور میری قوت سے اپنی راہ میں

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے بہتر سوال

وَخَيْرِ الدُّعَاءِ وَخَيْرِ النَّجَاحِ وَخَيْرِ

اور بہتر دعا اور بہتر کامیابی اور بہتر

الْعَمَلِ وَخَيْرِ التَّوَابِ وَخَيْرِ الْحَيَاةِ

عمل اور بہتر اجراء اور بہتر زندگی

حضرت یحییٰ بن سعید
 کو یہ دعوت کہ حضور اللہ صلی
 علیہ وسلم دعا کرتے ہیں زمانے

اللصمہ فائق الاصباح
 وجاعل اللیل سکناً۔ الخ
 صفحہ ۲۱۲ - ۲۱۱

لہ از سرگرمی اور نعمت

طریق فی الکبیر
 و الاوسط

حسن حسین
 صفحہ ۲۱۶ - ۲۱۷

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا سُبْحَانَ مَنْ اسْتَفْعَرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَخَيْرَ السَّمَاتِ وَتُبَّتْنِي وَ ثَقَلُ

اور بہتر موت اور ثابت قدم رکھنے اور بھاری کر دے

مَوَازِينِي وَ حَقِّقْ اِيْمَانِي وَ اَرْفَعْ

میرے تیزوں کے ترازو کو اور سچا ایمان عطا کر مجھے اور بلند فرما

دَرَجَتِي وَ تَقَبَّلْ صَلَاتِي وَ اغْفِرْ

میرے درجے کو اور قبول فرما میری نماز اور بخش دیجئے

خَطِيئَتِي وَ اَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى

میرے گنہ اور سوال کرتا ہوں میں جنت کے بلند

مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ

درجات کا آمین

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ فَوَاحِشَ

اے اللہ میں تجھ سے خیر کی ابتدا کہیں اور

الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَ

انہما کہیں بھی مانگتا ہوں اور سب کا سب خیر (دینی و دنیاوی) اور

اَوَّلَهُ وَ اٰخِرَهُ وَ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ

خیر کا اول بھی اور آخر بھی اور خیر کا ظاہر بھی اور باطن بھی

وَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ

اور جنت کے بلند درجے

اٰمِيْنَ

آمین

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا اَتٰی

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی اس کی جو میں لائیں

وَ خَيْرَ مَا اَفْعَلُ وَ خَيْرَ مَا اَعْمَلُ

اور بھلائی اس کی جو میں کروں اور بھلائی اس کی جو میں عمل کروں

اور بھلائی اس کی جو میں عمل کروں

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الصَّالِحِيْنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِرَبِّكَ

وَ خَيْرِ مَا بَطَنَ وَ خَيْرِ مَا ظَهَرَ وَ

اور بھلائی اس کی جو باہر شہید ہے اور بھلائی اس کی جو ظاہر ہے اور

الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ - آمین ابار

بلند درجات کی جنت میں - آمین

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَهُ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ بلند کر دے تو

ذِكْرِي وَ تَضَعِ وِزْرِي وَ تَصْلِحِ

میرے ذکر کو اور اتار دے تو میرے بوجھ کو اور درست کر دے

أَمْرِي وَ تَطَهِّرْ قَلْبِي وَ تُحْصِنِ

میرے کام اور پاک کر دے تو میرے دل کو اور نبھائے رکھ

فَرْجِي وَ تُنَوِّرْ قَلْبِي وَ تَغْفِرْ لِي

میری شرنگاہ کو اور روشن کر دے تو میرے دل کو اور بخش دے تو

ذَنْبِي وَ أَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى

میرے گناہ کو اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے جنت کے بلند

مِنَ الْجَنَّةِ - آمین ابار

درجوں کا - قبول یحییٰ (دعا میری) آمین

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَبَارِكَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں میں تجھ سے کہ برکت عطا فرما

لِي فِي سَمْعِي وَ فِي بَصَرِي وَ فِي

مجھے میرے کان میں اور میری آنکھ میں اور

رُوحِي وَ فِي خَلْقِي وَ فِي خَلْقِي وَ فِي

میری روں میں اور میرے وجود میں اور میرے اخلاق میں اور میرے اہل میں

أَهْلِي وَ فِي مَحْيَايَ وَ فِي مَمَاتِي

اور میری زندگی میں اور میری موت میں اور میرے

وَسَيِّئَاتِي
 تَقَبَّلْ مِنِّي
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الطَّالِبِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِزَّتِهِ
 بَعْدَهُ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدُ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَرَفِي عَمَلِي وَ تَقَبَّلْ حَسَنَاتِي وَ

عمل میں اور قبول فرما لے میری نیکیوں کو اور

أَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنْ

سوال کرتا ہوں میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا

الْجَنَّةِ - آمِينَ

قبول کیجئے (میری دعا) آمین

لَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ

اے اللہ عنایت فرما اپنی فراخ روزی مجھے

عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَ انْقِطَاعِ عُمُرِي

میرے بڑھاپے کے وقت میں اور میری عمر کے اختتام میں۔

لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ خَطِيئَتِي

اے اللہ بخش دے میرے گناہ اور میری خطا

وَ عَمَدَاتِي

اور میرے بالارادہ گناہ

لَهُ يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَ لَا

اے وہ ذات جس کو نہیں دیکھ سکتیں آنکھیں اور نہیں

تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَ لَا يَصِفُهُ

پا سکتے اس کو تخمیلات اور نہیں بیان کر سکتے اس کو

الْوَاصِفُونَ وَ لَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ

بیان کرنے والے اور نہیں متغیر کر سکتے اس کو حادثات

وَ لَا يَخْشَى الدَّوَابَّ يَعْلَمُ مَنَاقِبَ

اور وہ نہیں ڈرتا ہے زمانے کی گردشوں سے جانتا ہے وہ بوجھ

الْجِبَالِ وَ مَكَائِبِلَ الْبِحَارِ وَ عَدَادَ

پہاڑوں کے اور پیمانے سمندروں کے اور تعداد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہما / ابن عباس رضی اللہ عنہما
 حسن حسین صفحہ ۳۸۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 حضرت عائشہ صدیقہ
 رضی اللہ عنہا
 حاکم حرر - بلال بن رباح
 فی الاوسط
 حسن حسین صفحہ ۳۸۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 حضرت انس رضی اللہ عنہ
 رضی اللہ عنہما
 حسن حسین صفحہ ۳۸۸

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْتَ اسْتَغْفِرَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَالِيُّ الْقِيُومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

قَطْرَ الْأَمْطَارِ وَ عَدَادَ وَ سَرَاتِ

بارش کے قطرات کی اور تعداد درختوں کے

الْأَشْجَارِ وَ عَدَادَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ

پتوں کی اور تعداد ان چیزوں کی جن کو پھٹا لیتی ہے تاریکی میں

اللَّيْلِ وَ أَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَ

رات اور جن پر چمکتا ہے دن اور

لَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ وَ

نہیں چھٹا سکتا اس سے کوئی آسمان دوسرے آسمان کو اور

لَا أَرْضٌ أَرْضًا وَ لَا بَحْرٌ مَّا

نہ کوئی زمین دوسری زمین کو اور نہ کوئی سمندر اپنی

فِي قَعْرِهِ وَ لَا جَبَلٌ مَّا فِي

تر کی اشیا کو اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو جو اس کی گھوہ

وَعَرِهِ رَجَعَلٌ خَيْرٌ عُبرِيْ اٰخِرَةٍ

میں ہیں - کر دے تو بہترین عمر میری آخری عمر کو

وَ خَيْرٌ عَلَيَّ خَوَاتِيمَةٍ وَ خَيْرٌ

اور بہترین عمل میرے آخری اعمال کو اور بہترین

اَيَّامِيْ يَوْمَ الْقَاكَ فِيهِ اٰبَادٌ

دن میرے دنوں میں اس دن کو جس میں رطوں میں تجھ سے

لَهُ يَا وَرِيَّ الْاِسْلَامِ وَ اَهْلِهِ

اے کارساز اسلام کے اور اہل اسلام کے

ثَبَّتَنِيْ بِهِ حَتَّى اَلْقَاكَ اَبَارٌ

ثابت قدم رکھنا مجھے اس پر یہاں تک کہ میں تجھ سے رطوں

لَهُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الرِّضَا

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تسلیم و رضا کا

۶۶ حضرت نضار رضی اللہ عنہ
 طرانی فی البیرو والاوسط

حصن حصین
 صفحہ ۲۸۹

۶۶ حضرت انس رضی اللہ عنہ
 طرانی ۲۸

حصن حصین
 صفحہ ۲۸۸

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَرَبَّنَا عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بِالْقَضَاءِ وَ بَرْدِ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ

تیرے فیصلوں پر اور سکون بخش زندگی کا مرنے کے بعد

وَ لَذَّةِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَ الشَّوْقِ

اور تیرے دُرج زینبیا کی لذت و دیدار کا اور آتش شوق کا

إِلَى لِقَاءِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضْرَّةٍ

تیری ملاقات کی بغیر کسی آزار دینے والی مصیبت کے

وَ لَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ

اور بغیر کسی گمراہ کرنے والے فتنے کے

لَهُ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ

اے اللہ! اچھا بنا دے انجام ہمارا تمام کاموں میں

كُلِّهَا وَ أَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا

اور پناہ دے ہمیں اپنی دنیا کی رسوائی

وَ عَذَابِ الْآخِرَةِ

اور آخرت کے عذاب سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَ

اے اللہ! میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اپنی دولتندی کا اور

غِنَا مَوْلَايَ

اپنے متعلقین کی دولتندی کا

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَيْشَةً نَقِيَّةً

اے اللہ! میں سوال کرتا ہوں تجھ سے پاکیزہ زندگی کا

وَ مَيِّتَةً سَوِيَّةً وَ مَرَدًّا غَيْرَ

اور راستی کی موت کا اور ایسی زندگی کی طرف لوٹنے کا

مُخْزٍ وَ لَا قَاضٍ

جس میں رسوائی نہ ہو اور نہ اس میں فضیلت ہو

لعلہ ابی صبر رضی اللہ عنہ
اعداء طرانی ۲۸

حصن حصین
صفحہ ۲۸۹

لعلہ ابی عمر رضی اللہ عنہ
طرانی ۲۸

حصن حصین
صفحہ ۲۸۹

لعلہ ذیابناب رسول اللہ
علیہ وسلم نے کہ جس شخص
کی یہ دعا ہوگی وہ مصیبت
میں گرفتار ہونے سے بچے
دنیا سے رخصت ہو جائیگا
بسم اللہ ابی ابرارہ
طرانی ۲۸

حصن حصین
صفحہ ۲۸۹

وَبِنَا
تَقَاتِلْنَا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينُ أَمِينُ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْقِ عَرْشِكَ وَوَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَلِيْلُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَ

اے اللہ بخش دے مجھے اور رحم فرما میرے اوپر اور

أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ

ابار

داخل کر دے مجھے جنت میں

لَهُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي دِينِي الَّذِي

اے اللہ برکت عطا فرما مجھے میرے دین میں جس پر

هُوَ عِصْمَةٌ أَمْرِي وَفِي آخِرَتِي

دار و مدار ہے میرے کام کا اور میری آخرت میں

الَّتِي إِلَيْهَا مَصِيرِي وَفِي دُنْيَايَ

جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے اور میری دنیا میں

الَّتِي فِيهَا بَلَاغِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ

جس میں میری گزاراں ہے اور بنا دے زندگی کو

زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ

باعث زیادتی میرے لیے ہر بھلائی میں اور بنا دے

الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

موت کو باعث راحت میرے لیے ہر برائی سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں فریبندگی کے غلبہ

الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعُدُوِّ وَمِنْ بَوَارِ

سے اور دشمن کے غلبہ سے اور ہموئی یا خاندان کا زخم یا لاشٹھ بوجھانگی

الْأَيْمِ وَمِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ

ہلاکت سے اور دجال کے فتنہ سے

ابار

لے این عود رشی اشد حسن
طرائف

حصن حصین
صفحہ ۶۸۹

لے زبیر ابن العوام رشی اشد حسن
طرائف

حصن حصین
صفحہ ۶۹۰

۳۰
تشریح الہام جلد اول
صفحہ ۱۹۵
شمار ۳۶۸۰
عن انس رشی اشد حسن

رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا أُمَّيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ

اے اللہ ہے شک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس لیے

أَمُوتَ هَمًّا أَوْ عَمًّا وَأَنْ أَمُوتَ

سے کہ میں مردوں ہونے اور غم میں اور مردوں میں

عَرَفًا وَأَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ

لڑاکو ہو کر اور شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس

عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَنْ أَمُوتَ لِدَيْغًا أَبَار

کر دے اور بھلائے اور یہ کہ مردوں میں سانپ بچھو کے کاٹے سے

لَهُ اللَّهُمَّ أَشْرِبْ إِلَيَّمَانِ قَلْبِي

اے اللہ میرے دل کو ایمان اس طرح بلا دے

كَمَا أَشْرَبْتَهُ رُوحِي وَلَا تَعَذِّبْ

مجھے تو نے مجھے (مجموعی) روح بلا دیا ہے اور مجھے میرے بدن میں

شَيْئًا مِنْ خَلْقِي بِشَيْءٍ كَدَّبْتُ عَلَيْ

کسی قسم کا عذاب نہ کر جو تو نے میرے لئے کھو دیا ہے کیونکہ

فَاتِكَ قَادِرٌ عَلَيَّ

تو مجھ پر قادر ہے (اس کو ہٹا دینے پر)

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ

حَالِ أَهْلِ النَّارِ

والوں کے حال سے

لہ
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۳۸۰
 عن ابی ہریرہ
 رضی اللہ عنہ

لہ
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۳۸۰
 عن ابی ہریرہ
 رضی اللہ عنہ

۳
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۳۸۱
 عن ابن عباس
 رضی اللہ عنہما

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ طَهَّرْ قَلْبِي بِالطَّلْحِ وَ

اے اللہ پاک کر دے مجھے برکت اور

الْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ

اُدے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ اے اللہ

طَهَّرْ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا

پاک کر دے میرے دل کو خطاؤں سے جیسا طرح

طَهَّرْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ

تو سفید کپڑے کو میل سے پاک کر

الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ

دُشمن سے اور (اے اللہ) میرے اور میرے گناہوں کے

ذُنُوبِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ

درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا کہ مشرق اور

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي

مغرب کے درمیان ہے اے اللہ میں تیری

أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ

پناہ لیتا ہوں نہ ڈرنے والے دل سے اور

وَكَفْسٍ لَا تَسْبَعُ وَدَعَاءٍ لَا يَسْمَعُ

نہ سیر ہونے والے کلمے سے اور نہ قبول ہونے والی دعا

وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ اللَّهُمَّ إِنِّي

سے اور نہ نفع دینے والے علم سے اے اللہ میں تیری

أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلٍ الْأَرْبَعِ

پناہ لیتا ہوں ان چاروں سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَيْشَةً

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صاف زندگی

کتاب اعمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۳۸۱۸
 عن عبد اللہ
 بن ابی اوفی
 رضی اللہ عنہ

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ دُخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

نَقِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا

کا اور آسان موت کا اور ایسی لڑنے کی جگہ کا

عَيْرَ مَخْرَجٍ

ابار

جہاں رسوائی نہ ہو

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ

اے اللہ بے شک میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں

وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كَتَبَ عَلَيَّ

اور تیری (بارگاہ کی) طرف رجوع کرتا ہوں پس میری توبہ قبول

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ

اے اللہ اے اللہ سے بڑھ

الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَأَجْعَلْ حَشِيَّتَكَ

کر میرے نزدیک اور سب چیزوں سے زیادہ

أَخْوَفُ الْأَشْيَاءِ عِندِي وَ

اپنا خوف مجھ میں پیدا کر دے اور

اقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا

قطع کر دے مجھ سے دنیوی حاجات

بِالسُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا

اپنی ملاقات کے سائق کی وجہ سے اور جب

کتابت اول جلد اول
صفحہ ۲۰۱
شمارہ ۳۸۶۵
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
رضی اللہ عنہ

کتابت اول جلد اول
صفحہ ۲۰۱
شمارہ ۳۸۶۵
عن ابن عمر
رضی اللہ عنہ

رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

أَفْرَرْتُ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا

تو دنیا والوں کی آنکھوں کو ان کی دنیا سے

مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرَعَيْنِي

ٹھنڈا کر کے تو میری آنکھوں کو

مِنْ عِبَادَتِكَ

اپنی عبادت سے ٹھنڈا کر دے

اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ

اے اللہ مجھے برے اعمال سے اور

الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ

(برے) احسن اور نفاہی خواہشات اور

الْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ

تمام بیماریوں سے دور رکھ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں

مِنَ الشَّكِّ بَعْدَ الْيَقِينِ وَأَعُوذُ

شک سے یقین کے بعد اور میں تیری

بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پناہ مانگتا ہوں شیطان الرجیم کے شر سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ

اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قیامت کے دن کے

يَوْمِ الدِّينِ

عذاب سے

۱۰
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۱ شمارہ ۳۸۶
 من زيارتين علافة
 عن عت
 رضى الله عنه

۱۰
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۱ شمارہ ۳۸۶
 عن عت
 رضى الله عنه

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَصْلِحْ لِي سَمْعِي

اے اللہ میرے کانوں اور آنکھوں

وَبَصَرِي

کی اصلاح فرما

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَ

اے اللہ فائدہ دے مجھے میرے کانوں اور

بَصَرِي وَعَقْلِي وَاجْعَلْهُ الْوَارِثُ

میرا آنکھوں اور میری عقل سے اور ان کو میرا وارث

مِنِّي وَالصَّرْفِي عَلَيَّ مَنْ ظَلَمَنِي

بنا اور میری مدد فرما اس شخص کے مقابلے میں جو مجھ پر

وَأَرِنِي مِنْهُ ثَارِي

علم کرے اور دکھا دے مجھے اس سے میرا بدلہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَسِّعْ

اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرا

لِي فِي خَلْقِي وَطَيْبِي لِي كَسْبِي وَ

اطلاقی وسیع کر دے اور میری کمائی پاک کر دے اور

تَتَّبِعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَلَا تَذْهَبْ

جو روزی تو مجھ کو عطا فرمائے اس پر تمنا مت نصیب فرما

طَيْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي أبا

اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے تو میرے دل میں اس کی تلاش باقی نہ رکھ

کتاب
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۳۸۳۹
 عن جابر
 رضی اللہ عنہ

حفظ علی الرضی کرم اللہ
 وجہہ من روایت ہے
 کہ حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 میں نے اپنے پیغمبر (جبرائیل
 علیہ السلام) اور ان کے پیغمبروں
 کو سزا دی ہے۔ یعنی یہ
 کلمات دینا اور دنیا کی
 کلمات ان کی کیموں سے
 ہٹا کر ہیں۔ کہ
 اللہم اغفر لی ذنوبی
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۳۸۳۹

کتاب
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۱
 شمارہ ۳۸۳۹
 عن ابی ہریرہ
 رضی اللہ عنہ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

اسے اللہ میں مجھ سے پیرے اسم اعظم اور

الْأَعْظَمِ وَرِضْوَانِكَ الْأَكْبَرِ

پیرے رضوان اکبر کے ذریعہ سوال کرتا ہوں

فَإِنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ

کیونکہ وہ اللہ کے اسماء میں سے ہے

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلْنَاكَ

اسے اللہ ہم مجھ سے وہ چیز مانگتے ہیں کہ جس کا تیرے

بِهِ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

بندے اور رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سوال کیا ہے

وَنَسْتَعِيدُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ

اور ہم بہانہ مانگتے ہیں مجھ سے اس چیز کی کہ جس سے پیرے

عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

بندے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بہانہ طلب کیا ہے

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَأَرْحَمْنِي فَمَنْ دُ

اسے اللہ مجھے رزق دے اور مجھ پر رحم کر پس جس

رَحِمَهُ صَرَفَ عَنْهُ عَذَابَ

پر اس نے رحم کیا اس سے دوزخ کا عذاب پھیر

النَّارِ وَمَنْ رَزَقَهُ فَقَدْ كَفَاهُ

دیا اور جس کو اس نے رزق دیا تو بے شک اسے اللہ

کتابت اعمال جلد اول
صفحہ ۲۰۲
نمبر ۳۸۸۹
عن ابی ہریرہ
رضی اللہ عنہما

کتابت اعمال جلد اول
صفحہ ۲۰۳
نمبر ۳۸۹۳
عن ابی ہریرہ
رضی اللہ عنہما

کتابت اعمال جلد اول
صفحہ ۲۰۴
نمبر ۳۸۹۸
عن ابی ہریرہ
رضی اللہ عنہما

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ
جو شخص اس دعا کو پڑھے اور
اسے اللہ تعالیٰ سے
مغفرت کیسے
پیرے اسم اعظم اور
رضوان اکبر سے
سوال کرے اور
بہانہ مانگے
اللہ تعالیٰ اسے
بے شک
پہنچائے گا

کتابت اعمال جلد اول
صفحہ ۲۰۴
نمبر ۳۸۹۸

رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَدِيدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اللَّهُ مُؤْتِنَةُ الدُّنْيَا

ابار

نے دنیا کی مشقتوں سے کھایت کر دی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

نہیں کوئی مبود سوا ہے اللہ کے اور اللہ بہت بڑا ہے

وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

اور اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ تھائے کیئے ہے

وَتَبَارَكَ اللَّهُ

اور اللہ تھائے برکت والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا

نہیں کوئی مبود مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

کوئی مبود مگر اللہ وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

حکومت اسی کی ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر شے پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ

ت در ہے نہیں کوئی مبود مگر اللہ اور نہیں قوت رکھتا

إِلَّا بِاللَّهِ

کی مگر اللہ کے (دینے کے) سوا ہے

حضرت حماد رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے۔ کہ
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں اپنے
 کلمات میں ان کے ساتھ
 کوئی چیز نہیں جو اس کے
 ہی سے بڑھ کر ہو۔ ان
 ہی کی برکت سے آسمان
 بھجایا اور پہاڑ و جہاں
 ان سے پیدا فرمائے اور
 ان سے اپنے احکام لازم
 کرے۔ کلمات یہ ہیں۔
 لا اله الا الله الخ
 سنن العالی حدیث اول
 صفحہ ۲۰۳ - ۲۰۴
 شمارہ ۳۸۵۰

حضرت حماد رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا۔ میں نے جس شخص سے
 ان کے ساتھ کلمات کے
 ساتھ دعا کی وہ
 جو کچھ اللہ تھائے
 سے مانگے گا اسے
 ہوگا۔ وہ کلمات
 یہ ہیں
 لا اله الا الله الخ
 سنن العالی
 جلد اول
 صفحہ ۲۰۳
 شمارہ ۳۸۵۰



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْحُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

الظُّهْر

لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ

اے اللہ بخش دے میرے گناہ اور وسیع کر دے

لِي خَلْقِي وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي وَقَبِّعِي

میرا خلق اور حلال کر دے میرا کسب اور فنا کر دے

بِمَا رَزَقْتَنِي وَلَا تَذْهَبْ قَلْبِي إِلَى

مجھے جو تو نے مجھے دی اور نہ لے جا طلب میری کسی ایسی چیز کی

شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي

چیز جس کو تو نے مجھ سے ہٹا دیا

لَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي

اے اللہ بنا دے مجھے بہت صبر کرنے والا اور بنا دے مجھے

شُكُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا

بہت شکر کرنے والا اور بنا دے مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا

وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا

اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے پاکیزہ باتوں کا اور

۱۔ حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ منہ عنہ سے روایت ہے کہ
 حضور انور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مجھے فرمایا
 کہ میں نے تجھے پانچ چیزیں
 دل سے پانچ چیزوں اور
 جس میں تیرے دل سے
 دنیا کی جلاں اور
 رسول کی بارگاہ رسالت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 پانچ چیزیں کرنا
 پانچ چیزیں کرنا
 مجھے سکھائی ہیں
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ یہ ہیں
 الطَّيِّبَاتِ غَضُفِي وَنَجِي
 اس کے
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۵
 شمارہ ۵۰

۱۰
 شہانِ رضی اللہ عنہم
 بازار ۲۰
 صحن حسین
 صفحہ ۲۱۹
 ۱۰
 شہانِ رضی اللہ عنہم
 بازار ۲۰
 صحن حسین
 صفحہ ۲۱۹



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِشَيْءٍ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِرُحْمَةٍ

تَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبِّ الْمَسَاكِينِ

برائیوں کے بھڑکنے کا اور مسکینوں سے محبت کرنے کا

وَ أَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ وَ إِنْ أَرَدْتُ

اور اس بات کا کہ تو میری توبہ قبول فرمائے اور اگر تو ارادہ کرے

بِعِبَادِكَ فَتَنَةٌ أَنْ تَقْبُضَنِي إِلَيْكَ

اپنے بندوں کی آزمائش کا تو اٹھالے مجھے اپنی طرف

غَيْرَ مَفْتُونٍ

بغیر آزمائے کے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہو

وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ بَار

اور پناہ لیتا ہوں میں تجری ایسے علم سے جو نفع نہ دے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہو

وَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا

اور ایسے عمل کا جو مقبول ہو

لَهُ اللَّهُمَّ ضَعْ فِي أَرْضِنَا بَرَكَتَهَا

اے اللہ رکھ دے ہماری زمین میں اس کی برکت

وَ زِينَتَهَا وَ سَكْنَهَا

اور اس کی زینت اور اس کا سکون

لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ أَسْأَلُكَ بِأَتِكَ الْأَوَّلُ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس لیے کہ تو ہی اول ہے

فَلَا شَيْءَ قَبْلَكَ وَ الْآخِرُ فَلَا شَيْءَ

تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اور تو ہی آخر ہے تیرے بعد

۱۰۰ سطور رضی اللہ عنہما

طراز فی الاوسط

حصن حصین
صفحہ ۲۹۰

۱۰۰ سطور رضی اللہ عنہما
طراز فی الاوسط

حصن حصین
صفحہ ۲۹۱

۱۰۰ سطور رضی اللہ عنہما
طراز فی الاوسط

حصن حصین
صفحہ ۲۹۰

۱۰۰ سطور رضی اللہ عنہما
طراز فی الاوسط

حصن حصین
صفحہ ۲۹۰

رَبَّنَا
تَقَاتَلْنَا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بَعْدَكَ وَ الظَّاهِرُ فَلَا شَيْءَ فَوْقَكَ

کوئی چیز نہیں ہے اور تو ہی ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے

وَالْبَاطِنُ فَلَا شَيْءَ دُونَكَ أَنْ تَقْضِيَ عَنَّا

اور تو پوشیدہ ہے پس تیرے بچھے کوئی چیز نہیں ہے کہ تو ادا کر دے ہمارا

الدَّيْنِ وَ أَنْ تَغْنِينَا مِنَ الْفَقْرِ يَا

قرض اور یہ کہ دولت مند کر دے تو ہمیں مفلسی دور کرے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ لِأَمْرٍ شَدِيدٍ

اے اللہ میں رہنمائی طلب کرتا ہوں تجھ سے ان کاموں کی کہ میرے لیے

أَمْرِي وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي يَا

مناسب اور بہتر ہوں اور پناہ لیتا ہوں میں تیری اپنے نفس کے شر سے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي

اے اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں تجھ سے اپنے گناہوں کی

وَ أَسْتَهْدِيكَ لِأَمْرٍ شَدِيدٍ أَمْرِي وَ

اور رہنمائی طلب کرتا ہوں میں تجھ سے اپنے تمام درست کاموں میں اور

أَتُوبُ إِلَيْكَ فَتُبَّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ

توبہ کرتا ہوں میں تیرے سامنے توبہ قبول فرما لے میری بیشک تو ہی

رَبِّي اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ رَغْبَتِي إِلَيْكَ

میرا رہے۔ اے اللہ کر دے میری رغبت کو اپنی طرف

وَ اجْعَلْ عَنَائِي فِي صَدْرِي وَ بَارِكْ

اور رکھ دے میرا استغنا میرے سینے میں اور برکت عطا فرما

لِي فِي مَا رَزَقْتَنِي وَ تَقَبَّلْ مِنِّي

مجھے ان چیزوں میں جو تو نے مجھے دی ہیں اور قبول فرما میری یہ دعا

إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي

اے شک تو ہی میرا رب ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ

حصن حصین
 صفحہ ۲-۱۹۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ابْنِ عَمَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ شَيْبَةَ

حصن حصین
 صفحہ ۲-۱۹۱

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَلِيمُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْيَوْمَ الْقِيَوْمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ۝

لَهُ يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَ سَتَرَ

اے وہ جس نے ظاہر کیا الجھائی کر اور چھپایا

الْقَبِيحَ يَا مَنْ لَا يُؤَاخِذُ بِالْجُرِيئَةِ

برائی کر اے وہ جو مواخذہ نہیں کرتا گناہوں کا

وَلَا يَهْتِكُ السِّرَّ يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ

اور نہیں پردہ دری کرتا پوشیدہ چیزوں کی۔ اے بہت مہمان کرنے والے

يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ

اے اچھے طریقے سے درگزر کرنے والے اے وسیع مغفرت کرنے والے

يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ

اے دونوں ہاتھ کشادہ کرنے والے رحمت کے ساتھ اے

كُلِّ نَجْوَى يَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى

ہر راز کے رازدار اے ہر شکایت کے منتہا

يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ يَا عَظِيمَ السِّنِّ

اے عزت کے ساتھ درگزر کرنے والے۔ اے بڑے احسان کرنے والے

يَا مُبْتَدِئِ النِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا

اے دینے والے نعمتوں کے مستحق ہونے سے پہلے

يَا رَبَّنَا وَ يَا سَيِّدَنَا وَ يَا مَوْلَانَا

اے ہمارے پروردگار اور اے ہمارے سردار اور اے ہمارے مولیٰ

وَ يَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ

اور اے ہماری چاہت کے آخری مقصود۔ سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے اللہ

أَنْ لَا تَشْوَى خَلْقِي بِالنَّارِ ابَار

کہ نہ بھونسا میرے جسم کو آگ میں

لے عرواں شعیب رضی اللہ عنہ
 حاکم

حصن بن
 صفحہ ۴۹۱

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَوِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

جی شخص نے کہا
 لا الہ الا اللہ
 التحلیم الکریم... الخ
 تو وہ اس شخص کا ہاتھ
 چبے جس نے لیلۃ القدر
 کو پرایا
 سنہ ۳۸۷۹ھ
 صفحہ ۲۰۳

حضرت ابو جعفرؑ
 سے مرسل روایت ہے
 کہ حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 یہ کلمات القرون میں
 اپنی کائنات میں لائے جائیں
 اللہ العلی العظیم... الخ
 سنہ ۲۰۲۳ھ
 صفحہ ۲۰۳

حضرت عمر بن ابی
 حفصہ نے فرمایا
 اور حضرت زبیر بن العوفؓ
 سے روایت ہے کہ فرمایا
 سے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اس علیؑ فرمایا
 حضرت اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم میں سے فرمایا
 دعا کے کون جس کے نزدیک
 دعا کے تو جبریل
 تو دعا کے تو جبریل
 اس کے چوتھوں کی تعداد سے
 برابر بھی نہ ہوں گے
 تو ان کو بخش دیا جائیگا
 دعا ہے
 اللہ العلی العظیم... الخ
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۳
 شمارہ ۲۰۲۳

حضرت انس بن مالکؓ
 سے روایت ہے کہ
 حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا

اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَلِيمُ

اسے اللہ ہی سے سوا کوئی مبود نہیں دوا بڑا بڑا بار بڑے کرم

الْكَرِيمُ تَبَارَكَتْ سُبْحَانَ رَبِّ

والا ہے تو برکت والا ہے (تو) پاک ہے رب

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

عرش عظیم کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ

نہیں کوئی مبود مگر اللہ بڑا بردبار

الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ

بڑا کریم پاک ہے اللہ پروردگار

السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ

سات آسمانوں کا اور پروردگار

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

عرش عظیم کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں جو بلند عظمت والا ہے

سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

اللہ پاک ہے جو عرش کریم کا پروردگار ہے

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ

سب شریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا لے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ دَخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا خَيْرُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتَجَاوَزْ عَنِّي وَ

اللَّهُ مَجَّيَّحُ بَخَشِ دَسِ اَدْرِ مَجَّوْ بِرْمِ كَرِ اَدْرِ مَجَّوْ سِ دَرِ كَزِ فَرَا اَدْرِ
 اَعْفُ عَنِّي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اَبَار

مجھے معاف فرما ہے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْحَلِيمُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بلند برادر

الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ

کریم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بلند

الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ

عظمت والا ہے پاک ہے اللہ پروردگار

السَّمَوَاتِ السَّبْعِ رَبِّ الْعَرْشِ

سات آسمانوں کا پروردگار عرش

الْكَرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

کریم کا اور سب تعریفیں اللہ کے لئے

رَبِّ الْعَالَمِينَ اَبَار

ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ

پاک ہے ملک اور ملکوت والی ذات

سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوتِ

پاک ہے عزت اور جبروت والی ذات

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پروردگار ہے جس کے ارد گرد اپنے انھوں میں نور ہے جس سے زمین و آسمان کی مخلوق کی ہر ذرہ کو روشنی ملتی ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں قرآن مجید کے آداب سے مستخرج کر کے بیان کی ہیں۔ وہ دعائیں حضرت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی ہیں۔



شمارہ ۲۰۴
 صفحہ ۲۰۴
 سال ۱۳۸۵ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَىٰ نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَرِمَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا مُحَمَّدُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

یاک ہے وہ ذات جو زندہ ہے اسے موت نہیں

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ

وہ سبحوں ہے پاکیزہ ہے ملائکہ اور روح کا

وَالرُّوحِ

بار

پروردگار ہے

لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

کوئی معبود نہیں تیرے سوا تو پاک ہے

عَمِلْتُ سُوءًا أَوْ ظَلَمْتُ نَفْسِي

میں نے جو برے عمل کئے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کیا

فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّكَ أَنْتَ خَيْرُ

ہے پس تو مجھے بخش دے بے شک تو بہتر

الْغَافِرِينَ

بار بخشنے والے ہے

لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ واحد ہے

لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهًا وَاحِدًا

لا شریک ہے (وہ) الہ ہے واحد

حَمْدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

ہے نیاز نہ اس نے (کسی کو) جنم اور نہ وہ جنم کیا

۱۰
حضرت انس رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ جس شخص نے کہا
لا الہ الا انت سبحانک
تو اس کے سنہ بخشنے
دئے جاتے ہیں عمارہ
مسند کی جگہ کے
ہوایے ہوں۔
کنز العمال جلد اول
صفحہ ۲۰۲
شمار ۳۸۸۹

۱۰
حضرت عیادہ اور حضرت
ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
۱۰

۴۴۴
پڑھا کہ جس شخص نے
پڑھا لا الہ الا اللہ
دھندلے
کھینچا اور تہ۔ تو اللہ تعالیٰ
اس کے لئے دو لاکھ
جہنمیشہ نشتی نے زیادہ
پڑھا۔ تو اس کا توبہ
مہی اللہ تعالیٰ پڑھا
دینا ہے۔

کنز العمال جلد اول
صفحہ شمارہ
۲۰۲
۳۸۸۹



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْقِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كَفُوءًا أَحَدٌ اَلْبَار

اور نہ اس کا کوئی برابر کا ہمسر ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ اَلْبَار

اور اللہ بڑا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ

ہے اسی کے لئے ملک ہے اور

حضرت ابن کثیر رضی اللہ عنہما
 سے روایت ہے کہ
 حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے فرمایا جس
 شخص نے صرف اللہ
 کے لئے کہا لا الہ الا
 اللہ وحده الخ
 جنت میں داخل
 ہوگا۔
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۵
 شمارہ ۳۸۹۹

حضرت ابو ہریرہ رضی
 اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے فرمایا جس
 شخص نے صرف
 لا الہ الا اللہ
 وحده کہا اور اللہ کے لئے
 ہی شہادت دے
 اس کے لئے جنت میں
 جائے گا۔
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۴
 شمارہ ۳۸۸۵



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِشَيْءٍ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ الْحَيُّ الَّذِي

تمام تریف اسی کے لئے ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اسے

لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ

رکھیں موت نہیں اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ہر شے پر قادر ہے

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْهَدُكَ وَأَشْهَدُ

اسے اللہ میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں اور عام ملائکہ

مَلَائِكَتِكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ

اور عرش کے اٹھانے والے (ملائکہ) کو بھی گواہ بناتا ہوں اور

أَشْهَدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَأَشْهَدُ

میں گواہ بناتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق

مَنْ فِي الْأَرْضِ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ

کو۔ کہ ہے شک تو ہی اللہ ہے

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ

بیرے سوا کوئی معبود نہیں تو واحد ہے

لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَكْفَرُ مِنْ أَبِي

بیرا کوئی شریک نہیں اور انکے اور پچھلے لوگوں میں سے جو اس

ذَلِكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَ

بات کا انکار کرنے والا ہے میں اس سے انکار کرتا ہوں اور گواہی

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ سُبَّانَ

دیتا ہوں کہ ہے شک حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے بندے اور میرے رسول ہیں

لے
 حضرت سلمان اور
 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ
 عنہما سے روایت ہے کہ
 حضرت اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا جو شخص
 یہ ایک بار کہے۔
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْهَدُكَ
 اس کا تعلق جو دنیاوی
 کے اس کا دو تعلق
 اور جو تین بار کہے
 وہ تمام کا تمام دفع
 سے آزاد ہو جاتا ہے
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۸
 شمارہ ۲۸۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 تَقَبَّلْنَا مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا مَنْ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

شَيْئِي لِمُلْكِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

سائے ہر شے بھلی ہوئی ہے اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے

اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْئٍ لِقُدْرَتِهِ اَبَار

جس نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے مطیع کر رکھا ہے

يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَيَا صَاحِبِي

اے تکلیف کے وقت میرے (آرام کا) ڈرپیر اور اے سمجھنے کے

عِنْدَ شِدَّتِي وَيَا وَليَّ نِعْمَتِي

وقت میرے رفیق اور اے میرے ولی نعمت

يَا إِلَهِي وَإِلَهَ آبَائِي لَا تَكِلْنِي

اے میرے اور میرے آباء اجداد کے اللہ مجھے میرے

إِلَى نَفْسِي فَأَقْتَرِبْ مِنِّي الشَّرِّ

نفس کے بہرہ نہ کرنا ورنہ وہ مجھے شر سے قریب اور

وَأَتَّبِعْ عَدُوَّيَ الْخَيْرِ وَالْإِسْنِي

نیکی سے دور کرے گا اور جہنم میں میری

فِي قَبْرِئِي مِنْ وَحْشَتِي وَاجْعَلْ

وحشت کے دور کرنے کی صورت پیدا فرمانا

لِيْ عَهْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور میرے ہمسرہ کو قیامت کے دن

مَسْئُولًا

قابل ایسا بنا

اَبَار

۱۰۰
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۶
 شمارہ ۱۰۹
 عن ابن عمر
 رضی اللہ عنہما

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا بِمَا
 أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَاقِرَةً إِلَّا يَأْتِيهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَلِمَةُ اللَّهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَتُوبُ إِلَيْهِ

يَا وَدِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ

اسے اسلام کے والی اور اہل

مَتَّعْنِي بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ

مجھے اس سے فائدہ دے یہاں تک کہ تیری ملاقات کروں

يَا وَدِيَّ الْإِسْلَامِ مَسْكِنِي بِهِ

اسے اسلام کے نگہبان مجھے اس کے ساتھ تک عطا فرما

حَتَّى أَلْقَاكَ

یہاں تک کہ تیری ملاقات ہو

يَا اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ فَضْلِكَ

اے اللہ رزق دے ہم کو اپنے فضل سے

وَلَا تَحْرِمْنَا رِزْقَكَ وَبَارِكْ

اور نہ محروم کر ہمیں اپنے رزق سے اور برکت دے

لَنَا وَبِنَا رِزْقَتَنَا وَاجْعَلْ غَنَانًا

ہمیں اس رزق میں جو تو نے ہمیں عطا کیا اور پیدا کر دے

فِي أَنْفُسِنَا وَاجْعَلْ رِعْبَتَنَا

غنا ہمارے نفسوں میں اور کر دے ہماری رعبت اس چیز میں

وَبِنَا عِنْدَكَ

جو تیرے پاس ہے

۱۰
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۶
 شمارہ ۳۹۲۲
 عن ابن
 رضی اللہ عنہ

۱۱
 حضرت انس رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ
 حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم فرمایا کرتے
 تھے یا دلی الاسلام
 مسکنی بدحتی القاک
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۳۰۸
 شمارہ ۵۱۱۳

۱۲
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۳۸۱۳
 عن ابن عباس
 رضی اللہ عنہما

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بَعْدَهُ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَوِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

۱۰ اللَّهُمَّ إِنَّ جَوَارِحَنَا بِيَدِكَ

اسے اللہ میرے سب اعضا میرے ہی ہاتھ میں ہیں

لَمْ تُمْلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَإِذَا فَعَلْتَ

ان میں سے کسی کا تو نے ہم کو مالک نہیں بنایا پھر تو

ذَلِكَ بِهَا فَكُنْ أَنْتَ وَرَبِّهَا

نے جب ایسا کیا ہے تو تو ہی ان کا کارسازین

۱۱ سُبْحَانَ اللَّهِ

پاک ہے اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے

اللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ بہت بڑا ہے

۱۲ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِإِسْلَامٍ

اے اللہ! میری حفاظت فرما اسلام پر

قَائِمًا وَاحْفَظْنِي بِإِسْلَامٍ

قائم رکھ کر جب میں کھڑا ہوں اور میری حفاظت فرما اسلام کے ساتھ

قَائِدًا وَاحْفَظْنِي بِإِسْلَامٍ

جب میں بیٹھا ہوں اور میری حفاظت فرما اسلام کے ساتھ

کیا اس کی کون سا حالت رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے اس حالت میں سے ہر ایک صحابہ کو رکھا ہے پھر صحابہ نے اس طریقہ سے اللہ سے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سبحان اللہ اعظم ۱۰۹
 کنز العمال جلد اول صفحہ ۲۰۲ شمارہ ۳۸۵۸

۱۳
 کنز العمال جلد اول صفحہ ۱۹۵ شمارہ ۳۹۹۰ عن ابن مسعود

۱۰
 کنز العمال جلد اول صفحہ ۲۰۰ شمارہ ۳۸۱۹
 عن جابر رضی اللہ عنہ

۱۲
 حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے اس بات سے کہ روزانہ اہل رشتہ کے بارے میں دعا کرتے ہو تو



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ حَلَمِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَوِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا رَحِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

رَأَيْدًا وَلَا تَشْمِتْ زُنَى عَدُوًّا

جب میں سوتا ہوں اور مجھ پر کسی دشمن اور حاسد کو ہنس

وَلَا حَاسِدًا اللَّهُمَّ ارِنِي

اڑانے کا موقع نہ دینا اے اللہ میں مجھ سے ہر قسم

أَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ

کی جھلائی مانگتا ہوں جس کے خزانے تیرے ہاتھ

بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

میں ہیں اور تیری پناہ لیتا ہوں تمام برائیوں

كُلِّ شَيْءٍ خَزَّنَ آيَتُهُ بِيَدِكَ

سے جن کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَيْءٍ مَا أَنْتَ

اور تیری پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے بھی کہ جسکی

أَخَذْتُ بِنَاصِيَتِهِ

پیشانی تو نے پکڑ رکھی ہے

لَسُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

پاک ہے میرا رب بلند سے

الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ

بلند عطیہ بخشنے والا

حضرت سلیمان الاولیاء رضی
 عنہ روایت ہے کہ میں
 نے جب علی حضور نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا
 کرتا کرتا کہ تیرے ہاتھ تو
 آپ سبحان رب الاعلی
 سے شروع کرتا کرتا تھا۔
 صفحہ ۲۹۰
 شمارہ ۳۹/۱۶

رَبَّنَا
 تَقَدَّلْنَا مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يَا حَيُّ

العصر

لَهُ تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ

مکمل ہے تیرا نور پس تو نے ہدایت دی تیرے ہی لیے تعریف ہے

عَظَّمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ

ہمت زیادہ ہے تیرا حلم پس تو نے معاف کیا۔ پس تیرے ہی لیے ہے تعریف

بَسَطْتَ يَدَكَ فَأَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ

تیرا دست قدرت فراخ ہوا انعام کے ساتھ۔ پس عطا کیا تو نے پس تیرے ہی لیے ہے تعریف

رَبَّنَا وَجْهَكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ وَ

اے ہمارے پروردگار تیری ذات سب سے بزرگ ذات ہے اور

جَاهُكَ أَعْظَمُ الْجَاهِ وَ عَظِيمَتِكَ

تیرا رتبہ سب سے بڑا رتبہ ہے اور تیرا عظیمہ

أَفْضَلُ الْعَظِيمَةِ وَ أَهْنَاهَا تَطَاعُ

سب سے اچھا عظیمہ ہے اور سب سے زیادہ خوشگوار اطاعت کی جاتی ہے تیری

رَبَّنَا فَتَشْكُرُ وَ تَعْبُدُ رَبَّنَا فَتَعْفِرُ

اے ہمارے رب تو تو شکر کو قبول کرتا ہے اور نافرمانی کی جاتی ہے لے ہالے بے توفیق نہیں دیتا ہے

وَ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَ تَكْشِفُ الضَّرَّ

اور دعا قبول کرتا ہے تیرے مضطر کی اور دور کرتا ہے تیری تکلیف کو

وَ تَشْفِي السَّقِيمَ وَ تَغْفِرُ الذَّنْبَ

اور شفا دیتا ہے تیرے بیمار کو اور بخش دیتا ہے تیرے گنہگار کو

علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ
 ابو یوسف
 ابن ابی شیبہ
 حسن حسین
 صفحہ ۲۹۳

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترتهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ وَخَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَتَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ لَا يُجْزِي بِأَلَدِكَ

اور قبول کرتا ہے توہ توبہ کو اور نہیں بدلنے سکتا تیری نعمتوں کا

أَحَدٌ وَلَا يَبْلُغُ مِدْحَتَكَ قَوْلٌ

کوئی اور نہیں پہنچ سکتا تیری شریفی کو

قَوْلٌ

وَسَائِلُ

ابار

کسی قائل کا

لَهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ عَظِيمٍ لَا يَسْعُكَ

اسے اللہ ہے شک آپ رب ہیں بڑی عظمت والے آپ کو نہیں سما

شَيْءٌ عُمًّا خَلَقْتَ وَأَنْتَ تَرَى وَلَا

سکتی کوئی چیز آپ کی مخلوق میں سے اور آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے نہیں

تَرَى وَأَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى وَإِنَّ لَكَ

جائے اور آپ بہت اونچے مقام پر ہیں اور بے شک آپ کیلئے ہے

الْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَالْكَ الْمَمَاتِ وَ

آخرت اور دنیا اور آپ ہی کے بس ہیں سے موت اور

الْمَحْيَا وَإِنَّ إِلَيْكَ الْمُنْتَهَى وَالرُّجْعَى

زندگی اور بے شک آپ ہی کی طرف ہے انتہا اور لوٹنا

نَعُوذُ بِكَ أَنْ تَذِلَّ وَخُزَى اللَّهُمَّ

ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ذلیل ہونے اور رسوا ہونے سے اسے اللہ!

إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ أَلْفِ سَأَلٍ مَا لَا مَمْلُوكَةَ

بیشک آپ نے مانگی ہم سے وہ بات ہمارے نفسوں سے جس کا ہم اختیار

إِلَيْكَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا مَا يَرْضَىكَ

نہیں رکھتے مگر آپ کی توفیق سے پس عطا فرما ہم کو ہمارے نفسوں سے

ابار

عَبَّاسٌ

وہ بات جو آپ کو ہم سے راضی کر دے

لے
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۹۹
 شمارہ ۲۰۰۷
 عن ابی ہریرۃ رضی اللہ
 عنہ

رَبَّنَا
 تَقْبَلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا سَآءَ اللّٰهُ لَاقُوۡةَ اِلَّا بِاَللّٰهِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِیْبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَمْرِیِّ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَتْرَدِهِ
بَعْدَ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرِضٰی نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ کَلِمَاتِكَ
یٰ اَللّٰهُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ بِرُحْمَتِهِ

لَهُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَ

اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت

رَحْمَتِكَ فَانَّهُ لَا یَسْلُکُهَا اِلَّا اَنْتَ اَبَر

بہا ہوتا ہوں کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی ان کا مالک نہیں

لَهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا اَخْطَاْتُ وَ مَا

اے اللہ بخش دے مجھے جو کچھ میں نے بھول کر کیا اور جو کچھ

تَعَمَّدْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ

میں نے چھپا رکھا اور جو کچھ میں نے پوشیدہ کیا اور جو کچھ میں نے علانیہ کیا

وَ مَا جَهَلْتُ وَ مَا عَلِمْتُ اَبَر

اور جس کا مجھے علم نہیں اور جس کا مجھے علم ہے

لَهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ ظُلْمَنَا وَ

اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے ظلم اور

هَزَلْنَا وَ جَدْنَا وَ خَطَاْنَا وَ عَمَدْنَا

(دھوکا دینا) جو ہم سے ہنسی سے اور کج کج اور جو غلطی سے اور ارادہ ہوسکتے ہیں

وَ كُلُّ ذٰلِكَ عِنْدَنَا اَبَر

اور یہ سب کچھ ہم ہی سے ہوا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ تَجْمِیْدَ عَافِيَتِكَ

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیری عافیت کا تجمید

وَ دَفْعَ بَلَايِكَ وَ خُرُوْجًا مِّنَ الدُّنْيَا

اور تیری بلا کا دفع اور نکلتا دنیا سے تیری

اِلٰی رَحْمَتِكَ اَبَر

رحمت کی طرف

لَهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئِيْ وَ عَمْدِيْ

اے اللہ بخش دے میری خطا اور میرا بلارادہ گناہ

ابن مسعود طرانی
حصن صفحہ ۲۹۳

حصن صفحہ ۲۹۳

عمران بن حصین
احمد بن حنبلہ طرانی

حصن صفحہ ۲۹۳

عبد بن عمرو بن العاص
احمد بن حنبلہ طرانی

حصن صفحہ ۲۹۳

ابن مسعود
حصن صفحہ ۲۹۳

حصن صفحہ ۲۹۳

رَبَّنَا
تَقَاتِلْ مِنَّا
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ یٰ اَرْبَّ الْعٰلَمِیْنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ۝

وَهَزَلْنِي وَجِدَّيْ وَلَا تَحْرِمْنِي

اور میرا ہنسنا ماناں کا گناہ اور میرا سوچنا کا گناہ اور نہ محروم کرنا مجھے

بَرَكَتَهُ مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَا تَفْتِنِي

ان بجزدں کی برکتوں سے جو تو نے مجھے عطا کی ہیں اور اس کی آزمائش میں نہ ڈال

فِي مَا أَحْرَمْتَنِي

جس سے محروم رکھا ہے تو نے مجھے

لَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةٍ

اے اللہ بنا دے مجھے پیشوا

السَّائِقِينَ

متھے لوگوں کا

لَهُ اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ

اے اللہ تو نے اچھا بنایا ہے میری صورت کو پس اچھا بنا دے

خَلْقِي

میری بابت کو

يَا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي

اے میرے پروردگار بخش دیجئے اور رحم بھیجئے اور ہدایت دیجئے مجھے

السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ

سیدھی صحیح راہ کی

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے معافی کا اور عافیت کا

فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ

دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں

یہاں اور عین کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کئی عین میں اپنے رب کے ساتھ رکھو جسے مانگوں۔ صغیر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوالجلال و الاکرام سے دنیا و عافیت طلب کیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ص ۱۱۲ ص ۱۱۳

فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پچھا جان کیا عافیت کی کثرت سے دعا کیا کیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ص ۱۱۲ ص ۱۱۳

فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالجلال و الاکرام سے دنیا و عافیت سے پڑھ کر کوئی چیز نہیں کہی کہ عافیت سے مانگئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ص ۱۱۲ ص ۱۱۳

اے اللہ کونسا عین عین ہے جس سے اللہ اجعلنی من اممہ المتقین۔ مؤلف الامام ابوبکر عظیم ص ۱۱۲ ص ۱۱۳

اے اللہ اس کے لئے احمد، ابوبکر، حسن، حسین ص ۱۱۲ ص ۱۱۳

تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں جس سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے پروردگار کے عافیت ہے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ دُخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَوَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

تَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَ

الْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهَدْيِ

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَبَار

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِئِيلَ وَ

مِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ

أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَ

عَذَابِ الْقَبْرِ اَبَار

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ

النِّعْمَةِ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَ

الشُّكْرَ لَكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَرْضَى

وَبَعْدَ الرِّضَا وَالْخَيْرَةَ فِي

حضرت ام المومنین عائشہ
 صدیقہ کبریٰ سے روایت ہے
 کہ حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا اے
 اللہم رب جبرئیل
 و میکائیل و اسرافیل
 معنی ۲۰۱

مع
 حضرت عبدالغنی بن
 ابی سلمہ الانصاری نے
 یہی کہ حضرت مصعب کبریہ
 فرمایا دعاؤں میں دعا کے
 اللہم انی استلک
 تمام النعمۃ فی
 الاشیاء کلہا ابار
 کذا رجال
 مجلس ازل
 معنی ۲۰۲
 شمار ۵۰۳

رَبَّنَا
 تَقَاتِلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَوَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

جَمِيعُ مَا يَكُونُ فِيهِ الْخَيْرَةُ

چیزوں میں ہیں انتساب ہوتا

بِجَمِيعِ مِيسُورِ الْأُمُورِ كُلِّهَا

اور انتساب سب ہی کاموں کا ہوتا ہے

لَا مَعْسُورَ هَا يَا كَرِيمُ

کاموں کا اسے کریم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنْ أَسْأَلَكَ بِنِعْمَتِكَ

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے لہجہ بڑے سابق

السَّابِقَةِ عَلَيَّ وَبَلَاءِكَ

انعام کے مجھ پر اور پرسیلو اس

الْحَسَنِ الَّذِي ابْتَلَيْتَنِي

اچھے امتحان کے جس سے امتحان لیا ہو تو نے

بِهِ وَفَضْلِكَ الَّذِي أَفْضَلْتَ

میرا اور پرسیلو تیرے اس فضل کے جو تو نے فضل کیا ہو مجھ

عَلَيَّ أَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ

پر کہ داخل کر مجھے جنت میں اپنے آسان اور

بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ

فضل اور رحمت سے

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ

اے اللہ تو بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اے اللہ بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے

اللہ
 حضرت جابر سے روایت
 ہے کہ میں حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
 حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا۔ اے جبریل
 یہ کیا ہے کہ یہاں میں تھریں
 کیا وہ کچھ زیادہ محبوب
 ہیں ان حالت میں جو
 مجھے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اسی طرح دیکھا اور
 اور وہ تیرے لئے دنیا اور
 آخرت کی بھلائی جمع
 کرتے ہیں۔ میں نے عرض
 کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ان میں محتاج
 علیہ وسلم ان حالت میں
 ہوں اور یہ حالتیں ہیں
 (مکروں کے مقابلے میں)
 زیادہ محبوب ہیں
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہو

نہ
 کتبہ اعمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۰
 شمارہ ۳۷۹۶
 حق ابن مسعود

۳۶
 اللہم انت الخلاق العظیم
 تو ان مخلوقات کو پیدا کرنے والے
 اور اپنے بندوں میں آبنوالوں
 کو رکھنے والے
 کتبہ اعمال جلد اول
 صفحہ ۳۰۸-۳۰۹
 شمارہ ۵۱۲۰



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اے اللہ ہے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ

اے اللہ ہے شک تو عرش عظیم کا پروردگار

الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ

اے اللہ ہے شک تو

الْجَوَادُ الْكَرِيمُ فَاعْفُرْ لِي

کرم کرنے والا سخی ہے پس مجھے بخش

وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

دے اور مجھ پر رحم کر دے اور مجھ کو عافیت دے اور مجھے

وَأَسْتَرْنِي وَأَجْبِرْنِي وَأَرْفَعْنِي

رزق دے اور میری پمردہ پوشی کر اور مجھ سے کٹ پھوٹ کو جوڑ دے اور

وَاهْدِنِي وَلَا تَضِلَّنِي وَ

مجھ کو ہند کر اور مجھے ہدایت دے اور مجھے گمراہ نہ کر اور

أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ

مجھ کو داخل کر جنت میں بیری رحمت کے طفیل

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ابَار

اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ تیرے ہی لئے حمد ہے

حَمْدًا دَائِمًا مَعَ خَلْقِكَ

ایسی حمد کہ ہمیشہ رہے تیری ہمیشگی کے ساتھ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 سے روایت ہے کہ
 حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 حضرت جبریل علیہ السلام
 نے مجھے کہا کہ جب
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 سنا ہے کہ کرات
 اور دن کی عبارت لاحق
 اور کر دیں۔ تو ابو
 ابیہرک الحمد الخ
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۳
 شمارہ ۳۸۹۹

کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۳
 شمارہ ۳۸۹۹
 عن علی رضہ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَىٰ نَفْسِكَ وَرِزْقَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِشَيْءٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا

اور تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی حمد کہ نہ ہو

مُنْتَهَىٰ لَهُ دُونَ عِلْمِكَ

اس کی انتہا تیرے علم سے در ہے

وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

اور تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی حمد کہ

لَا يَرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ

نہ قصد کرتا ہو کہنے والا اس کا مگر تیرے خوشنودی

وَالْحَمْدُ حَمْدًا مَلِيًّا عِنْدَ

کا اور تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی حمد کثیر ہر

كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَ

ہر ایک طرفتے کے وقت اور

تَنْفَسِ نَفْسٍ

ہر سانس لینے کے وقت

أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَ

یا اللہ! تیرے ہی لئے حمد ہے شکر کے ساتھ اور

لَكَ الْمَنُّ فَضْلًا

تیرے ہی لئے احسان ہے فضل کے ساتھ

أَبَار

يَا رَبِّ اعْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ

اے میرے رب بخشنے والا اور توجہ فرما مجھ پر ہے شک آپ

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

تو بہ قبول فرمائے والے بہر باں ایسے

أَبَار

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

۷

کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۹۶
 شمارہ ۳۷۲۲
 عن ابن عمر
 رضی اللہ عنہما

۷
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۹۶
 شمارہ ۳۷۲۲
 عن ابن عمر
 رضی اللہ عنہما

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَرِزْقَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي

يَا اللَّهُ تیرے ہی لئے حمد ہے تیری

بِلَايِكَ وَصَنِيْعِكَ إِلَى خَلْقِكَ

بلا اور تیرے برتاؤ میں اپنی مخلوق کے ساتھ

وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بِلَايِكَ وَ

اور تیرے ہی لئے حمد ہے۔ تیری بلا اور

صَنِيْعِكَ إِلَى أَهْلِ بِيُوتِنَا

تیرے برتاؤ میں ہمارے گھر والوں کے ساتھ

وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بِلَايِكَ وَ

اور تیرے ہی لئے حمد ہے تیری بلا اور

صَنِيْعِكَ إِلَى أَنْفُسِنَا خَاصَّةً

تیرے برتاؤ میں خاص ہماری جانوں کے ساتھ

وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا هَدَيْتَنَا

اور تیرے ہی لئے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں ہدایت کی

وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا سَتَرْتَنَا وَ

اور تیرے ہی لئے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہماری پردہ پوشی کی

لَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ وَلَكَ

اور تیرے ہی لئے حمد ہے قرآن شریف پر اور تیرے ہی لئے

الْحَمْدُ بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَلَكَ

حمد ہے اہل اور مال پر اور تیرے ہی لئے

الْحَمْدُ بِالْمُعَافَاةِ وَلَكَ

لئے حمد ہے درگزر کرنے پر اور تیرے ہی لئے

الْحَمْدُ حَتَّى تُرْحِنِي وَلَكَ

حمد ہے یہاں تک کہ راضی ہو جائے تو اور تیرے ہی لئے

لئے
 حضرت انبیا و ائمہ
 میں تیرے ان دعاؤں کے
 ساتھ دعا کی سرور میں
 ساتھ حضور انور صلی اللہ
 علیہ وسلم سے بھی
 کرنا ہے کہ تیرے ہی لئے ان الفاظ
 کے ساتھ دعا فرمایا کرتے
 تھے۔

۳۳
 اللہم لك الحمد
 في بلائك وصنيعك
 الى خلقك الخ
 سنہ اول
 شمارہ ۳۰۸
 ۵۱۰۹

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَوَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ يَا أَهْلَ

حمد ہے جب کہ راضی ہو جائے تو اسے وہ ذات

التَّقْوَىٰ وَيَا أَهْلَ الْمُخْفِرَةِ اِبَار

جس سے ڈرنا چاہیے اور اسے وہ کہلاتی ہے کن بڑے صحت کرنے کے

لَهُ اللَّهُ لَا تَجْعَلْ لِمَاجِرٍ

یا اللہ نہ کہ کسی بدکار کا مجھ پر

عِنْدِي نِعْمَةً أَوْ كَافَّةً بِهَا

کوئی احسان کہ مکافات کرنی پڑے مجھ کو

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِبَار

دنیا میں اور آخرت میں

لَهُ خَلَقْتَ رَبَّنَا فَسَوِّتْ وَقَدَّرْتَ

اے ہمارے رب پیدا کیا تو نے پس درست کیا اور مقدر فرمایا

رَبَّنَا فَقَضَيْتَ وَعَلَى عَرْشِكَ

(اور تو نے تو نے اے ہمارے رب پس فیصلہ فرمایا اور تو نے اپنے عرش پر

إِسْتَوَيْتَ وَأَمَّتْ وَأَحْيَيْتَ

مستوی ہوا اور تو نے موت دی اور زندگی عطا کی

وَأَطَعْتُمْ وَأَسْقَيْتُمْ وَ

اور تو نے کھلایا اور پلایا اور

أَرَوَيْتُمْ وَحَمَلْتُمْ فِي

سیراب کیا اور اپنے پر

۷۱۲
 سنہ ۱۴۲۳ھ
 جلد اول
 صفحہ ۲۰۳
 شمارہ ۳۸۶
 عن ابی حریرۃؓ

۷۱۲
 سنہ ۱۴۲۳ھ
 جلد اول
 صفحہ ۲۰۳
 شمارہ ۳۸۶
 عن ابی حریرۃؓ

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بِرِّكَ وَبَحْرِكَ عَلَى فَلَكَ وَ

اور بحر میں کشتی اور جانوروں اور

عَلَى دَوَّابِّكَ وَعَلَى أَلْعَابِكَ

ہو پتھروں پہ سوار کیا

فَأَجْعَلْ لِي عِنْدَكَ وَلِيَّةً وَاجْعَلْ

میں کر میرے لئے اپنے یہاں دخل اور کر

لِي عِنْدَكَ زَلْفِي وَحَسَنَ مَا بِي وَ

میرے لئے اپنے یہاں قرب اور رجوع نیک اور

اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَخَافُ مَقَامَكَ وَ

کر مجھے ان لوگوں میں سے کہ ڈرتے ہیں میرے سامنے اور

وَعَيْدِكَ وَيَرْجُو لِقَاءَكَ وَاجْعَلْنِي

بیری دمید سے اور تمنا رکھنے میں میرے وصال کی اور توبھے ایسا

أَتُوبُ إِلَيْكَ تَوْبَةً لَّصُوحًا وَ

کر دے کہ میں تیری طرف توبہ کرتا رہوں۔ توبہ خاص اور

أَسْأَلُكَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَعِلْمًا

پائگتا ہوں تجھ سے عمل مقبول اور علم

نَجِيحًا وَسَعِيًّا مَشْكُورًا وَتِجَارَةً

کار آمد اور سعی مشکور اور تجارت

لَنْ تَبُورَ ط

جس میں کھاتا نہ ہو

إِنَّ تَغْفِرَ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وَ

اے اللہ! اگر آپ بخشیں تو آپ بہت بخش فرماتے ہیں اور

أَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلْمَا

آپ کو کوئی تائبہ گنہگار نہیں ہے

لے
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۹۶
 شمارہ ۸۰۸
 عن ابن عباس
 رضی اللہ عنہ

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا بَدِيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَحْدِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ زَيِّنِي بِالْعِلْمِ وَارْمِنِي

اسے اللہ مجھے زینت بخشن علم کے ساتھ اور عزت بخش

بِالتَّقْوَى وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ اِبَار

تقویٰ کے ساتھ اور جمال عطا فرما عافیت کے ساتھ

لہ
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۹۹
 شمار ۳۷۸۸
 عن ابن عمر
 رضی اللہ عنہما

لَهُ اللَّهُمَّ أَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ

اسے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندہ کا بیٹا ہوں اور

وَابْنُ أُمَّتِكَ نَأِصِيَّتِي بِيَدِكَ

تیری لڑائی کی اولاد ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے - چلتا

أَتَقَلَّبُ فِي قَبْضَتِكَ وَأُصَدِّقُ

پھرتا ہوں تیرے قبضے میں اور تیری طائفت کو سچا جانتا ہوں

بِلِقَائِكَ وَأُؤْمِنُ بِوَعْدِكَ أَمْرَتْنِي

اور تیرے وعدے پر ایمان رکھتا ہوں تو نے مجھ

فَعَصَيْتُ وَكَلَّهْتَنِي فَأَبَيْتُ هَذَا

کو حکم دیا مگر میں نے نافرمانی کی - اور تو نے مجھ کو روکا مگر

مَكَانُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ لَا إِلَهَ

میں نہ رہا - یہ مقام ہے اس شخص کا جو تجھ سے دوزخ کے عذاب سے پناہ

إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي

کا ظالم ہے - مہبود کوئی نہیں سوا تیرے تو پاک ہے - میں نے اپنی جان

فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

پر عفو کیا ہے - تو اب تو مجھے بخش دے - کیونکہ سوا تیرے کوئی

إِلَّا أَنْتَ اِبَار

کی ہوں کو نہیں بخشتا -

لہ
 خرب الامل
 طائفت رجا
 صفحہ ۱۰۹-۱۰۸

وَتَنَا
 تَقَاتِلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

للهُ اللَّهُمَّ اِنْسِ وَحْشَتِي فِي قَبْرِى

يا الله مہل بہ انس کرنا میری وحشت کو میری قبر میں

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

يا الله رحم کر مجھ پر یہ بظہیل قرآن عظیم کے

وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى

اور کر دے اسے میرے لئے رہبر اور نور اور ہدایت

وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ

اور رحمت یا اللہ یاد کر دے مجھے اس میں سے

مَا لَيْسَتْ وَعَلَّمْنِي مِنْهُ مَا جَهَلْتُ

جو کچھ میں بھول گیا ہوں اور سکھا دے مجھے اس میں سے جو کچھ

وَأَرُزُقْنِي تِلَاوَتَهُ الْكَأَنَّ اللَّيْلَ

میں نہ جانتا ہوں اور تقیب کر مجھ تلاوت اس کی رات دن کے

وَالنَّهَارَ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً

اوقات میں اور کرنا اسے میرے لئے حجت

يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

اے رب العالمین

للهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ

يا الله میں مانگتا ہوں تجھ سے بظہیل حضرت محمد صلی اللہ

نَبِيِّكَ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَ

علیہ وسلم کے جو کہ نبی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نبی ہیں اور

مُوسَى نَحِيَّكَ وَعِيسَى رُوحَكَ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو روح اللہ

لله
 ترتیب الا عظیم
 علی النہد المخصوصۃ
 صفحہ ۱۱۸-۱۱۹

لله
 ترتیب الا عظیم
 علی النہد المخصوصۃ
 صفحہ ۱۱۳-۱۱۴

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى فَسْكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَكَلِمَتِكَ وَبِكَلَامِ مُوسَى وَإِجْبِلِ

اور کلمتہ اللہ میں اور بظہیل کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور اجیل

عِيسَىٰ وَرَبُّورِدَاوُدَ وَفِرْقَانَ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اور قرآن حضرت

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے

وَبِكُلِّ وَحْيٍ أَوْحَيْتَهُ أَوْ قَضَاءٍ

اور بظہیل ہر وحی کے جس کو تو نے بھیجا ہو۔ اور ہر حکم کے جس کو تو نے

قَضَيْتَهُ أَوْ سَائِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَوْ فَقِيرٍ

جاری کیا ہو اور ہر مددگار کے جس کو تو نے دیا ہو۔ اور ہر محتاج

أَغْنَيْتَهُ أَوْ عَنِيَّ أَفْقَرْتَهُ أَوْ ضَالٍّ

کے جس کو تو نے تو نگر کیا ہو اور ہر تو نگر کے جس کو تو نے محتاج کر دیا ہو اور ہر

هَدَيْتَهُ وَاسْأَلْكَ يَا سَمِيكَ

گمراہ کے جس کو تو نے ہدایت کی ہو اور مانگتا ہوں میں تجھ سے بظہیل تیرے اس نام

الَّذِي أَنْزَلْتَهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَاسْأَلْكَ

کے جو تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا اور مانگتا ہوں میں

بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْأَرْضِ

تجھ سے بظہیل تیرے اس نام کے جس کو تو نے زمین پر رکھا تو

فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَ

ظہر کچھ اور آسمانوں پر رکھا تو ٹھہر گئے اور

عَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَاسْأَلْكَ يَا سَمِيكَ

پہاڑوں پر رکھا تو جم گئے اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بظہیل

الَّذِي اسْتَقْرَبَهُ عَرْشُكَ ۝ وَ

تیرے اس نام کے کہ ٹھہرا ہوا ہے اس سے لاش تیرا اور

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 يَعدِدُ كُلَّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَضِيَ نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَمَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

أَسْأَلُكَ يَا سَمَكَ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ

سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بظہیل اس تیرے نام کے کہ پاک اور ستھرا ہے

الْمُنزَلِ فِي كِتَابِكَ مِنْ لَدُنْكَ

جو تیری کتاب میں تیرے ہمارے سے انار کیا ہے اور بظہیل اس تیرے

وَيَا سَمَكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ

نام کے جس کو تو نے دن پر رکھا تو

فَأَسْتَأْمَرُ وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمُوا

اور گہرا اور رات پر رکھا تو اندھیری ہو گئی اور بظہیل

بِعَظْمَتِكَ وَكِبْرِيَاؤِكَ وَبِنُورِ

تیری عظمت کے اور تیری بڑائی کے اور بظہیل تیرے نور

وَجُهِكَ أَنْ تَرْزُقَنِي الْقُرْآنَ

ذات کے یہ کہ تو تعظیم کرے مجھے قرآن عظیم

الْعَظِيمَ وَتَخْلِطَهُ بِلَحْمِي وَ

اور پیوست کر دے تو اسے میرے گوشت میں اور

دَمِي وَسَمْعِي وَبَصْرِي وَتَسْتَعْمِلُ

میرے خون میں اور میری شنوائی میں اور میری بینائی میں اور اس پر حال بنا دے

بِهِ جَسَدِي رَحْوَلِكِ وَقُوَّتِكَ

میرے جسم کو اور اپنی قدرت اور قوت سے

فَاتَهُ لَأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

کیونکہ نہیں ہے بھرنے کی مصیبت سے اور قوت عبادت کی بھر

بِكَ

تیرے ذریعے سے

لَهُ اللَّهُمَّ لَا تُوَمِّئْنَا مَكَرَكَ وَلَا تُنْسِنَا

اسے اٹھ نہ دے ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے اور نہ بھلا ہم

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 أَنْتَ اللَّهُمَّ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

۱۰۰
 النور العظیم
 کتاب النور
 ۲۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَوَسَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

ذِكْرَكَ وَلَا تَهْتِكْ عَنَّا سِتْرَكَ

کو اپنا ذکر اور نہ پردہ دری کہ ہماری

وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِينَ اَبَا

اور نہ کر ہمیں غافلوں میں سے

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى دِينِي بِالْدُّنْيَا

یا اللہ مدد کر میرا دین سے دین پر دنیا کے ساتھ

وَعَلَى آخِرَتِي بِالتَّقْوَى وَاحْفَظْنِي فِيهَا

اور میری آخرت پر تقویٰ کے ساتھ اور تو ہی محافظہ میری

عَبْتُ عَنْهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي

ان چیزوں کا جو میری آنکھ سے دور ہیں اور دعا کہ مجھے میرے نفس

فِيمَا حَضَرَتْهُ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ

کی ان چیزوں کی جو میرے پیش نظر ہوں۔ لے وہ کہ نہیں نقصان پہنچاتے

الدُّوْبُ وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ

اسے گناہ اور نہیں کمی کرتی اس کے یہاں مغفرت

هَبْ لِي مَا لَا يَنْقُصُكَ وَأَعْفِرْ لِي مَا

دے مجھے وہ چیز کہ نہیں کمی کرتی تیرے یہاں کی اور معاف کر دے

لَا يَهْزُوكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

مجھے وہ چیز کہ نہیں نقصان پہنچاتی تجھے کیونکہ تو ہی دینے والا ہے۔

أَسْأَلُكَ فَرَجًا قَرِيبًا وَهَبْرًا

مانگتا ہوں میں تجھ سے کتنا کٹھن قری اور میرے جیل

جَمِيلًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَالْعَافِيَةَ

اور رزقِ واسع اور امن

الغزب الاشم
 تاملی قاری
 ۲۱۹-۲۲۱

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَدْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ

جملہ بلاؤں سے اور مانگتا ہوں میں تجھ سے پورا

الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ

امن اور مانگتا ہوں میں تجھ سے بقا امن کی

وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَ

اور مانگتا ہوں میں تجھ سے شکر امن پر اور

أَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ وَالْأَحْوَالَ

مانگتا ہوں میں تجھ سے سیر چشم آدمیوں سے اور نہیں پھرنا گناہوں سے

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ يَا

اور قدرت عبادت کی مگر ساتھ انہی بزرگ و بزرگ کے اسے

رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ

پرستہ رب اسے پرستہ رب اسے پرستہ رب

لَهُ اللَّهُمَّ كَمَا حَلَّتْ بَيْنِي وَبَيْنَ

یا اللہ جس طرح حائل ہے تو مجھ میں اور میرے دل

قَلْبِي فَحَلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ

میں تو حائل رہے مجھ میں اور شیطان اور اس

وَعَمَلِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ فَضْلِكَ

کے کام میں یا اللہ نصیب کہ ہمیں اپنا فضل

وَلَا تَحْرِمْنَا رِزْقَكَ وَبَارِكْ لَنَا

اور نہ محروم رکھ ہمیں اپنے رزق سے اور برکت دے ہمیں اس

فِيمَا رَزَقْتَنَا وَاجْعَلْ غِنَاءَنَا فِي

رزق میں جو تو نے ہمیں دیا اور کر غنا ہماری ہمارے دلوں

أَنْفُسِنَا وَاجْعَلْ رَغْبَتَنَا فِيمَا عِنْدَكَ يَا

میں اور کر دے رغبت ہماری اس چیز میں جو میرے پاس ہے

ترتیب شریف
 لا علی تاریخ
 صفحہ ۴۱۹

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يَا رَحِيمُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ ارْتُقِ أَعْوُدِي بِكَ أَنْ تَصُدَّ عَنِّي

اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے اس سے کہ میرے پیروں سے

وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

تو مجھ سے قیامت کے دن

اللَّهُمَّ ارْتُقِ أَسْئَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ایمان ہمیشہ رہنے والا

وَأَسْئَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا وَأَسْئَلُكَ

اور مانگتا ہوں تجھ سے دل خشوع کرنے والا اور مانگتا ہوں تجھ سے

يَقِينًا صَادِقًا وَأَسْئَلُكَ دِينًا قَيِّمًا

یقین سچا اور مانگتا ہوں تجھ سے دین درست

وَأَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ

اور مانگتا ہوں تجھ سے امن ہر بلا سے

وَأَسْئَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَ

اور مانگتا ہوں تجھ سے ہمیشہ رہنا امن کا اور

أَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَ

مانگتا ہوں تجھ سے شکر امن پر اور

أَسْئَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ

مانگتا ہوں تجھ سے بے پرواہی لوگوں سے

اللَّهُمَّ ارْتُقِ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا

اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے اس

تَبَّتْ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدَّتْ فِيهِ

گنہ کی جس سے میں نے توبہ کی ہو اور پھر توبہ کرنا چاہتا ہوں

الحسب الاغني
 علی قاضی قاضی
 صفحہ ۱۹۵
 علی
 الحسب الاغني
 علی قاضی قاضی
 صفحہ ۲۳۸-۲۳۹
 کتب دارالحدیث
 صفحہ ۳۳
 شمارہ ۵۰۶۲

الحسب الاغني
 علی قاضی قاضی
 صفحہ ۲۳۹-۲۴۰



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَوَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِرِغْبَةٍ

وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْطَيْتَكَ مِنْ

اور معافی چاہتا ہوں مجھ سے اس عہد کی جو میں نے تجھ کو

نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أُؤْفِكَ بِهِ

اپنی جان سے دیا اور پھر اس کو وفا نہ کیا ہو

وَاسْتَغْفِرُكَ لِلنَّعْمَاتِ الَّتِي تَقْوَيْتُ

اور معافی چاہتا ہوں تجھ سے ان نعمتوں کے بارے میں جن سے قوت

بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَاسْتَغْفِرُكَ

حاصل کی ہیں نے تیرے گناہ پر اور معافی چاہتا ہوں تجھ

لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ

سے ہر اس نیکی کے بارے میں کہ کرنا چاہتا ہوں اس کو خالص تیرے

وَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ

لئے پھر مل گیا اس میں وہ چیز جو خالص تیرے لئے نہ تھی

اللَّهُمَّ لَا تَخْزِنِي فَإِنَّكَ بَنِي

اسے اللہ رسوا نہ کرنا مجھے کیونکہ تو مجھے جانتا

عَالِمٌ وَلَا تَعَذِّبْ بَنِي فَإِنَّكَ

سے اور نہ عذاب کرنا مجھے کیونکہ تو

عَلَى قَادِرٌ

مجھ پر قادر ہے

ابار

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ

اے اللہ بخش مجھ کو اور تمام مومنین

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اور مومنات اور مسلمانین اور مسلمات کو

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

لے
 اہلسنیہ اسلام
 ماسی قادیام
 صفحہ ۱۹۸/۱۹۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 يَدْخُلُونَ كُلٌّ مَعْلُومٌ لَكَ وَبَعْدُ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَاصْلِحْهُمْ وَاصْلِحْ ذَاتَ

اور درست کر دے انہیں اور مسلح دے ان کے آپس

بَيْنَهُمْ وَآلِفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

میں اور الفت دے ان کے دلوں میں

وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ

اور کر دے ان کے دلوں میں ایمان

وَالْحِكْمَةَ وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ

اور حکمت اور ثابت رکھ انہیں اپنے رسول (صلی اللہ علیہ

رَسُولِكَ وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا

رسول کے دین پر اور نصیب کر انہیں یہ کہ شکر کریں تیری

نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَ

اس نعمت کا جو تو نے ان کو دی ہے اور

أَنْ يُؤْفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ

یہ کہ پورا کریں تیرا وہ عہد جو تو نے ان سے لیا ہے

عَلَيْهِ وَالصَّرْهَمُ عَلَى عَدْوِكَ

اور غالب کر ان کو اپنے اور ان کے دشمن

وَعَدُوِّهِمْ إِلَهَ الْحَقِّ سُبْحَانَكَ

یا اے معبود برحق پاک ہے تو

لَا إِلَهَ غَيْرُكَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي

کوئی معبود تیرے سوا نہیں بخش دے میرے گناہ

وَاصْلِحْ لِي عَمَلِي إِنَّكَ تَغْفِرُ

اور درست کر دے میرے عمل کیونکہ تو بخش دیتا

الدُّنُوبَ لِمَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ

ہے گناہ جس کے چاہتا ہے اور تو ہی

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَسْبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَوَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

الْغُفُورُ الرَّحِيمُ

ابار

غفور رحيم ۴

يَا عَنفًا اِغْفِرْ لِي يَا تَوَّابُ

اے غفار بخش دے مجھے اے تواب

تُبِّ عَلَيَّ يَا رَحْمَنُ ارْحَمْنِي

تو بہرے کر بڑی اے رحمن رحیم کر مجھ پر

يَا عَفُوًّا عَفِّ عَنِّي يَا رَوْفُ ارْوُونُ

اے عفو کرنے والے درگزر کر مجھ سے اے رؤف ہریان ہوا

يَا رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ

مجھ پر اے پروردگار نصیب کر مجھے یہ کہ شکر کروں تیری

بِعَمَلِكَ الَّتِي اَلْعَمْتُ عَلَيْكَ وَ

تجارت کا جو تو نے مجھ پر مجھ پر ہے اور

طَوَّقْتَنِي حَسَنَ عِبَادَتِكَ يَا رَبِّ

طاقت دے مجھے اچھے عبادت اچھے طرح کرنے کے اے

اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ يَا رَبِّ

پروردگار! میں مانگتا ہوں تجھ سے سبھی سب کے سب اے

اِنْتُمْ لِي بِخَيْرٍ وَاخْتِمْ لِي

پروردگار! آغاز کر میرا خیر کے ساتھ اور خاتمہ کر میرا

بِخَيْرٍ وَاِتِنِي تَشَوُّقًا اِلَىٰ اِقْبَارِكَ

خیر کے ساتھ اور اپنی طاقات کے تڑپ دے

مِنْ عَيْرِضْرًا عَرْمُضْرَةً وَلَا فِئْتَنَةً

ایسی مصیبت سے بچا کر جو نقصان رساں ہو اور ہر فتنہ سے محفوظ

ترتیب شریف
 ۱۹۸-۲۰۰
 مکتبہ اعلیٰ
 کراچی

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِكَ مَعْلُومِكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

مُضِلَّةٌ وَتِنِي السَّيِّئَاتِ وَمَنْ

رکھ کر جو گمراہ کرنے والا ہو اور مجھ سے برائیوں سے اور جس کو تو

تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ

بجائے اس دن برائیوں سے تو بے شک تُو نے اس پر رحم کیا

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اِبَار

اور یہی تو ہے بڑی کامیابی

يَا اللَّهُ تَبْرَأُ لِي بِكَ تَبْرَأُ لِي بِكَ تَبْرَأُ لِي بِكَ

یا اللہ تیرے ہی لئے ہے تیری سب کسب اور تیرے ہی

الشُّكْرُ كُلُّهُ وَلكِ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَ

لئے ہے شکر سب کسب اور تیرا ہی ملک ہے سب کسب اور

وَلكِ الْخَلْقُ كُلُّهُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ

تیری ہی مخلوق ہے سب کسب تیرے ہی قبضہ میں ہے محمود

كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ

سب کسب اور تیری ہی طرف رجوع ہوتی ہیں کل باتیں

أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُوذُ بِكَ

میں تجھ سے مانگتا ہوں بھلائی سب کسب اور تیرا پناہ چاہتا

مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي

ہوں تمام برائیوں سے میں نام لیتا ہوں اس اللہ کا جس کے

لَا إِلَهَ غَيْرُهُ اللَّهُمَّ أَذْهَبْ عَنِّي

سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ دور کر مجھ سے

الْهَمَّ وَالْحُزْنَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ

شکر اور غم اے اللہ! تیری ہی حمد کے

ترتیب شریف
 طالعاً قاری ۲۱
 صفحہ ۲۱۲-۲۰۰

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَوِدَادِ كُلِّ مَاءٍ بِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

الْصَّرَفْتُ وَيَذُنِّي اعْتَرَفْتُ وَ

ساتھ چٹ پھرتا ہوں اور اپنے گنہ کا اقرار کرتا ہوں میں اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ

جو جو کرتے ہیں میرے ہیں ان سب سے تیری پناہ چاہتا ہوں

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جُهِدِ الْبَلَاءِ وَمِنْ

اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آزمائش کی سختی سے اور آخرت

عَذَابِ الْآخِرَةِ

ابار کے عذاب سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ

اے اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے توفیق اہل ہدایت

الْهُدَى وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ

کی سی اور عمل اہل یقین کے سے

وَمُنَاصِحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعِزَّةَ

اور اخلاص اہل توبہ کا سا اور ہمت

أَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ أَهْلِ الْخَشْيَةِ

اہل صبر کی سی اور کوشش اہل خوف کی سی

وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ

اور طلب اہل شوق کی سی اور عبادت

أَهْلِ الْوَرَعِ وَعِدْفَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ

اہل تقویٰ کی سی اور معرفت اہل علم کی سی

حَتَّى الْقَائِكَ

ابار یہاں تک کہ لوں میں تجھ سے

الحزب الاثني عشر
 من جملة علي وقبائلهم
 صفحہ ۲۰۶-۲۰۷

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنْكَ
 إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَىٰ نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَخَافَةً

اے اللہ میں ہانگتا ہوں تجھ سے ایسا خوف کہ

تَخْجِرْ زِيَّ عَنِّي مَعَاصِيكَ حَتَّىٰ

روک دے مجھے تیرے نافرمانیوں سے تاکہ

أَعْمَلُ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اسْتَحِقُّ

عمل کروں میں تیرے طاعت کے ایسے عمل کہ مستحق ہوں

بِهِ رِضَاكَ وَحَتَّىٰ أَنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ

ان سے تیرے خوشنودی کا اور تاکہ غافل کروں تیرے سامنے توبہ

خَوْفًا مِنْكَ وَحَتَّىٰ أَخْلِصَ لَكَ

ڈر کر تجھ سے اور تاکہ صاف کروں تیرے سامنے

التَّوْبَةَ حَيَاءً مِنْكَ وَحَتَّىٰ

مستحسبوں کو شرم کر تجھ سے اور تاکہ

أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ

بھروسہ کروں تجھ پر کل کاموں میں

كُلِّهَا وَحَسُنَ ظَنُّكَ بِكَ سُبْحَانَ

اور ہانگتا ہوں نیک ظن کا اسے تیرے ساتھ تاکہ

خَائِبِ التُّوْبَةِ اللَّهُمَّ لَا تَهْلِكْنَا

بے پیدا کرنے والا توبہ کا اے اللہ نہ ہلاک کرنا ہم کو

وَجَاعَةً وَلَا تَأْخُذْنَا بِغَتَّةٍ وَلَا

ناگمان اور نہ پکڑنا ہم کو اجانگ اور نہ

تَغْفُلْنَا عَنْ حَقٍّ وَلَا وَصِيَّةٍ اِبَار

غافل کرنا ہمیں کس حق سے اور کس وصیت سے

لَهُ اللَّهُمَّ عَذَابَ الْكُفْرَةِ وَالنِّقْمِ فِي

اے اللہ عذاب دے کافروں کو اور ڈال دے ان کے

ترتیب شریف
 طاعتی کتاب
 ۲۰۰۷/۸

ترتیب شریف
 طاعتی کتاب
 ۱۹۵-۱۹۷

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 يَعْذُوكَ كُلُّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَخَالَفَ بَيْنَ

دلوں میں رعب اور اختلاف پیدا کر دے ان

كَلِمَتِهِمْ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ

کلمات میں اور آواز ان پر تہر اپنا

وَعَذَابِكَ اللَّهُمَّ عَذَابَ الْكُفْرَةِ

اور عذاب اپنا اسے اظہر عذاب دے کافروں کو

أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ

اہل کتاب اور مشرکین کو جو

يَجْحَدُونَ آيَاتِكَ وَيَكْذِبُونَ رُسُلَكَ

انکار کرتے ہیں تیری آیتوں کا اور جھٹلاتے ہیں تیرے رسولوں

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيَتَعَدَّوْنَ

کو اور روکتے ہیں تیری راہ سے اور تجاوز کرتے ہیں

حُدُودَكَ وَيَدْعُونَ مَعَكَ إِلَهًا

تیری حدود سے اور پکارتے ہیں تیرے ساتھ اور معبود کو

آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَبَارَكْتَ وَ

نہیں ہے کوئی معبود سوا تیرے تبارکت ہے تو اور

تَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ

برتر ہے اس سے کہ کہتے ہیں ظالم

عَلَوْا كَبِيرًا

بہت بڑا برتر ہونا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ امْرَأَةٍ

اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری ایسی عورت سے

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ترتیب شریف
 جلد ۱۰
 صفحہ ۲۲۲ - ۲۲۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 يَعْذِرُ كُلَّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

تُسَبِّحُنِي قَبْلَ الْمَشِيِّبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا بنا دے اور پناہ چاہتا ہوں تیری ہی

وَلَدِي يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا وَأَعُوذُ بِكَ

اولاد سے کہ جو مجھ پر وبال اور پناہ چاہتا ہوں تیری

مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا وَأَعُوذُ

ایسے مال سے کہ جو مجھ پر عذاب اور تیری پناہ

بِكَ مِنْ صَاحِبِ خَدِّ يَعْتَرَانِ رَأْيِي

ہیٹا ہوں اس دغا باز دوست سے جو مجھ کی دیکھ

حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً

تو اس کو دبا دے اور اگر برائی دیکھے تو اس کو

أَفْشَاهَا

ابار

لوگوں میں کتا پھرے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری شدت فقر سے

الْبُؤْسِ وَالسَّوْسِ

ابار

اور بنا دہی فقر و عاجزی سے

اللَّهُمَّ تَبَشِّرْنِي أَنْ أَزِلَّ وَاهْدِنِي

اے اللہ ثابت قدم رکھ مجھے کہیں پھسل نہ جاؤں اور ہدایت

أَنْ أَضِلَّ

ابار

کہ مجھے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں

کنوز الثمان للصادق
صفحہ ۵۳

المذنب الاثم
عاشق تائب
صفحہ ۱۹۰-۱۸۹

علی
الذیفة الغیر المخصوصة
صفحہ ۱۲۳

رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَاتُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا قُدُّوسُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ

اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میرے ساتھ

أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ

کچھ بھی شریک کروں اور اس کو میں جانتا

وَأَسْتَغْفِرُكَ بِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ إِلَّا

ہوں اور معافی چاہتا ہوں اسلئے کہ جسے میں نہ جانتا ہوں

۴۰
 الخرب الاظم
 ص ۲۲۸
 صفحہ ۲۲۹

بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنِ الْآهْلِ

اے اللہ میں تجھ سے اپنے گھرانوں اور اپنے

وَالْمَوْلَى وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَدْخُو

مخبروں کی مالدار کی مالگاہوں اور تیری پناہ لیتا ہوں رشتے

عَلَى رَحِمٍ قَطَعْتَهَا

ابار
 ناطے کی پردہ سے جس کو میں نے کاٹ ڈالا ہو

۴۱
 الخرب الاظم
 ص ۲۲۸
 صفحہ ۲۳۰

بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ

اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے منکر کی موت

الْهُمِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الْعَمَى

سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری تم کی موت سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَسْسُ

اور پناہ چاہتا ہوں تیری بھوک سے کیونکہ انسان کے ساتھ یہ

الضَّجِيعِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ

بہت بری ہم بستری اور پناہ چاہتا ہوں تیری خیانت سے

۴۲
 الخرب الاظم
 ص ۲۲۸
 صفحہ ۲۳۰

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ

بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْقِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ

يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

فَإِنَّهَا بَسَّتِ الْبِطَانَةُ

ابار

کیونکہ میرے اندر فی بری بری خصلت ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اجْعَلْ وَسْ قَلْبِي حَشِيَّتَكَ

ابار

اے اللہ کر دے میرے دل کے حالات کو اپنا خوف

وَذِكْرَكَ وَاجْعَلْ هَمِّي وَهَوَايَ فِيْمَا

ابار

اور اپنی یاد اور کر دے بہت بری اور خواہش بری اس چیز

تُحِبُّ وَتَرْضَى اللَّهُمَّ وَمَا ابْتَلَيْتَنِي

ابار

میں جسے تو اچھا سمجھے اور پسند کرے اے اللہ اور جس بات میں بھی

بِهِ مِنْ رُخَاءٍ وَشِدَّةٍ فَمَسْكِنِي بِسُنَّةِ

ابار

تو امتحان کر سے میرا خواہ آسانی خواہ سختی تو مجھے رکھ مجھے طریق حق

الْحَقِّ وَشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ

ابار

اور شریعت اسلام پر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَقْبِلْ بَقَلْبِي إِلَى دِينِكَ

ابار

اے اللہ متوجہ کر دے میرے دل کو اپنے دین کی طرف

وَاحْفَظْ مِنْ وُدِّ أَيْنَا بِرَحْمَتِكَ

ابار

اور حفاظت رکھ ہماری ادھر ادھر سے اپنی رحمت کے ساتھ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبِّ وَحَبِيبِي وَفِي نَفْسِي لَكَ

ابار

اے رب اپنا بتا لے مجھے اور میرے نفس میں اپنے تقابلے میں



حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

اللہ رب العالمین

کون سا حال چاہوں

میرے دل کو اپنے دین کی طرف

میں اپنے تقابلے میں

الحسن بن علی

قال قتاد بن ربعی

مؤید ۲۲۱/۲۲۲

الحسن بن علی

قال قتاد بن ربعی

مؤید ۲۲۲/۲۲۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِ
 بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَضِيَ نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ؟ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

فَدَلِّلْنِي وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَطِّمْنِي

فرمانبرداری ڈال دے اور لوگوں کی نظر میں عظمت دے مجھے

وَمِنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ فَجَبِّبْنِي

اور برے اخلاق سے بچا دے مجھے

اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ

اے اللہ تو ہم پر اپنی برکتوں اپنی رحمت اپنے فضل

وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ

اور اپنے دئے ہوئے رزق میں فراغت و فراخی نصیب فرما

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ

اے اللہ میں تجھ سے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمت مانگتا

الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ

ہوں جو کبھی نہ واپس لے جائے۔ اور نہ کبھی زائل ہو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ

اے اللہ میں تجھ سے خوف کے دن (یعنی قیامت میں) امن کا

الْخَوْفِ

طالب ہوں

ع
 سبب الخوف
 قابل تارخ
 ۱۰۵

ع
 سبب الخوف
 قابل تارخ
 ۱۰۵

ع
 سبب الخوف
 قابل تارخ
 ۱۰۵

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترَتِهِ
بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
وَإِلَهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

حضرت امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی دعا جو انہیں قید خانہ میں حضوراتِ قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی

يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ وَيَا سَابِقَ

اے وہ ذات جو ہر آواز کو سنتی ہے اور اے گزرے ہوئے

الْفُوتِ وَيَا كَاسِيَ الْعُظَامِ لِحَمًا

کو داپس لانے والے اور اے ہڈیوں کو گوشت پہنچانے والے اور موت

وَمُنْشِرَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَسْئَلُكَ

کے بعد ان کو منتشر کرنے والے میں تیرے اسمائے حسنا

يَا سَمَائِكَ الْحُسْنَى وَيَا سَمِيكَ الْأَعْظَمَ

کے وسیلہ سے اور تیرے پر شہیدہ اسم اعظم و

الْأَكْبَرِ الْمَخْزُونِ أَلَمْ يَكُنْ الَّذِي لَمْ

اکبر سے جس پر کہ تو نے مخلوق میں سے کسی کو مطلع

يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ

نہیں کیا۔ پتھر سے سوال کرتا ہوں

يَا حَلِيمًا ذَا أَنَاةٍ لَوْ يَقْوَىٰ عَلَىٰ

اے حلیم اور ہمت دینے والے جس سے زیادہ کوئی ہمت

أَنَاةٍ يَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا

دینے والا نہیں اے ایسی نیکیوں والے جو کبھی شقہ نہیں

يَنْقُطِعُ أَبَدًا وَلَا يَحْطِي عَدَدًا

ہوتیں۔ اور شمار و قطار سے باہر ہیں میری

فِرَاجٍ عَنِّي

مشکل کو حل فرما

لے
مردن الرشید مالک الخراج
اس کا بیان ہے کہ مردن
الرشید کا آدمی رات کو ایک
وقت میرے پاس آیا۔ کہ
سچی دعا کیا کرتے ہو؟
میرے پاس ایک کتاب تھی
مردن رشید نے کہا۔ اور مجھے
ذری۔ اور ساتھ ہی سے کیا
مجھے نہایت خوف پیدا ہوا۔
جب میں محل کے قریب پہنچا
تو ایک خادم نے مدد کیسے
آنے کی اطلاع دی۔ جب
اجازت ہوئی۔ تو میں اندر
گیا۔ میں نے دیکھا۔ کہ
مردن الرشید بیٹھا ہوا ہے۔
میں نے سلام کیا۔ ایک طرف
بلک کھجور پوچھتے رہے
تیرے کپڑے کھینچ کر لے گئے
اور بہت کھینچ کر لے گئے
کچھ عرصہ بعد چلے ہو گئے
مردن رشید تو جانتا ہے۔ کہ
میں نے کچھ بول کر کہا
میں نے بھی ایک جملہ فرمایا
تو اسے۔ جس کے ہاتھ میں
تو اس وقت (حضرت امام)

موسیٰ بن جعفر امام کی
پھر اسے۔ مردن رشید نے کہا
اسے تو اس کے ساتھ لے کر گیا
ہوں۔ میں تو جا۔ اور حضرت
(ام) تم سے بیٹھ کر پوچھتا رہتا
میں نے کہا۔ کیا آپ عالم
دیتے ہیں۔ کہ (حضرت امام)
موسیٰ بن جعفر کو چھوڑ دوں؟
اسی طرح کہا گیا۔ تیری ذمہ
لے لوں گا! میں نے تین دفعہ
اسی وقت جا کر چھوڑ دے اور
تین بار دردم بھی ان کو
دیتے۔ اور میری طرف سے
بہ بھی کہہ دے۔ کہ اگر آپ
یہاں عفریہ پسند کریں تو
یہاں عفریہ پسند کریں۔
سعادت اور رفورہیات کا
میں ذمہ دار ہوں گا۔ اور اگر
آپ عفریہ چاہا جائے۔ اور اگر
تشریف لے جائیں۔ تو ان کو
کو تو ان کے پاس۔ کہ جب میں
میں میں جعفر امام کے
موسیٰ بن جعفر امام نے
کھول کر لیا۔ کہ ان کی نسبت
میں نے کہا۔ کہ ان کی نسبت
کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی نسبت
(دعا کی آئینہ صوفیہ)



ہاں
مشکل کو حل فرما

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا أَيُّهَا اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

زینتِ دنیا دیکھ کر دنیا را درہ
 کلماتِ توبہ کی صحت ۱۰۰۰ الی
 یا سہ ماہہ علی صحت اور اس کا
 میں نے یہی پڑھا اور اس کا
 نتیجہ یہ ہے کہ توبہ دیکھا
 روحِ النوبِ معلوم
 صفحہ ۵۷-۵۸
 علامہ ابنِ السعدی علی بن السین
 ابن علی السعدی ۲۰

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَطْرٍ

اے اللہ میں تیری پناہ لینا ہوں مالداری پر کرنے سے

الْغِنَى وَمَذَلَّةِ الْفَقْرِ يَا مَنْ وَعَدَ

اور فقیر کی ذلت سے اے وہ ذات جس نے وعدہ فرمایا

كُوفِي وَأَوْعَدَ فَعَفَا عَفْوًا وَسَنَ ظَلَمَ

تو ہوا فرمایا اور عذاب کو کہا تو بخش دیا معاف فرما دے

وَأَسَاءَ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ طَاعَتِي

اس شخص کو جس نے ظلم کیا ہے اور برا عمل کر لیا ہے۔ اے وہ ذات جس کو میری

وَلَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَتِي هَبْ لِي

فرمانبرداری تو سن کر دیتی ہے اور میری نافرمانی اس کا کچھ بگاڑتی نہیں۔ جو بات

مَا يَسُرُّكَ وَأَعْفِرْ لِي مَا لَا

مجھ کو خوش کرتی ہے۔ تو مجھ کو وہ عطا فرما دے اور مجرمات تیرا مجھ بگاڑتی

يَفْضُرُّكَ

اباں نہیں۔ تو مجھ کو وہ معاف فرما دے۔

عاقبت کدشت صوفیہ نے
 چھرتین نے عرض کیا کہ آپ
 صحت نامہ آپ کے آزاد کرنے
 نے مجھے دیا ہے۔ اور یہ بھی
 کا حکم دیا ہے کہ آپ بھی
 حکم دیا ہے۔ اور
 میں نے اس پر اور ہم دونوں
 میں نے اس پر اور ہم دونوں
 ہے۔ اور اگر کسی نے
 آپ کے لئے ہے۔ اور اگر کوئی
 آپ کے لئے ہے۔ اور اگر کوئی
 مقام ہوگا۔ اور آپ
 کی طرف آجا جائیگا۔ اور
 اس بار میں آزاد ہیں۔ اور
 میں نے اس پر اور ہم دونوں
 اور ان کو راکر دیا۔ اور میں
 نے عرض کیا کہ میں نے
 آپ کا مجھ سے کیا ہے۔ اور
 حضرت امام مولانا صاحب (رحمۃ اللہ علیہ)
 فرمایا۔ میں سوا پڑا تھا۔ اور
 حضرت انس رضی اللہ عنہما نے
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
 علی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہئے گا
 فرمایا میں نے توفیق کی جس سے
 میں پڑا ہے۔ توبہ کی صحت کی حکایت
 اس کا توبہ ہے۔ اور
 کوزل کے مرض کی حکایت
 چار بار توبہ پڑھ کر یہ حکایت
 ۳۸۸۳

صَلَاةَ اللَّهِ عَلَى آدَمَ

اللہ کا درود ہو آدم علیہ السلام پر

توبہ اللہ علیہ السلام / توفیق داری
 صفحہ ۳۸۸/۳۸۹
 حضرت علی رضی اللہ عنہما نے
 روایت ہے کہ جو شخص توبہ
 تین بار کے صلوات اللہ
 علی آدم و آلہ علیہ السلام کے
 لیا تو پتھر کی طرح پتھر سے
 لیا کے مثل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ
 علیہ السلام سے کہنا چاہئے گا
 حضرت مولانا صاحب (رحمۃ اللہ علیہ)
 فرمایا کہ جو شخص توبہ پڑھے
 حضرت مولانا صاحب (رحمۃ اللہ علیہ)
 فرمایا کہ جو شخص توبہ پڑھے
 حضرت مولانا صاحب (رحمۃ اللہ علیہ)
 فرمایا کہ جو شخص توبہ پڑھے



چار بار توبہ پڑھ کر یہ حکایت
 ۳۸۸۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِ
بَعْدَهُمْ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدُ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَوَسَادِ كَلِمَاتِكَ
وَإِلَّهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی قدرت سے کسی اور کوئی شے پیدا نہیں کی گئی اور نہ ہی کبھی کبھی اسے فنا کر دیا جائے گا۔ اس کی قدرت سے جو شے پیدا کی جائے گی، وہ سب اللہ ہی کی قدرت سے ہے۔ تو اسے بے شمار بار پڑھا کریں، اس کی قیامت سے ہر شے کے لیے نیک اور برکت مند ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت کی تمام باتیں لکھی ہیں، اس لیے اسے روز بروز پڑھیں۔

۱۰۰ بار	سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى پاک ہے میرا پروردگار بلند
۱۰۰ بار	سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اللہ ہی بڑا ہے اور نہیں توں
۱۰۰ بار	إِلَّا بِاللَّهِ وَاللَّهُ الْأَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَدَدَ مَا عِلِمَ اللَّهُ وَوَزْنَ مَا عِلِمَ اللَّهُ وَمِثْلَ مَا عِلِمَ اللَّهُ جو اللہ کے علم میں ہے۔ اور وزن اس چیز کا جو علم الہی میں ہے اور اس چیز کی مثل جو اللہ کے علم میں ہے

یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی قدرت سے کسی اور کوئی شے پیدا نہیں کی گئی اور نہ ہی کبھی کبھی اسے فنا کر دیا جائے گا۔ اس کی قدرت سے جو شے پیدا کی جائے گی، وہ سب اللہ ہی کی قدرت سے ہے۔ تو اسے بے شمار بار پڑھا کریں، اس کی قیامت سے ہر شے کے لیے نیک اور برکت مند ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت کی تمام باتیں لکھی ہیں، اس لیے اسے روز بروز پڑھیں۔

یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی قدرت سے کسی اور کوئی شے پیدا نہیں کی گئی اور نہ ہی کبھی کبھی اسے فنا کر دیا جائے گا۔ اس کی قدرت سے جو شے پیدا کی جائے گی، وہ سب اللہ ہی کی قدرت سے ہے۔ تو اسے بے شمار بار پڑھا کریں، اس کی قیامت سے ہر شے کے لیے نیک اور برکت مند ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت کی تمام باتیں لکھی ہیں، اس لیے اسے روز بروز پڑھیں۔

یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی قدرت سے کسی اور کوئی شے پیدا نہیں کی گئی اور نہ ہی کبھی کبھی اسے فنا کر دیا جائے گا۔ اس کی قدرت سے جو شے پیدا کی جائے گی، وہ سب اللہ ہی کی قدرت سے ہے۔ تو اسے بے شمار بار پڑھا کریں، اس کی قیامت سے ہر شے کے لیے نیک اور برکت مند ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت کی تمام باتیں لکھی ہیں، اس لیے اسے روز بروز پڑھیں۔

یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی قدرت سے کسی اور کوئی شے پیدا نہیں کی گئی اور نہ ہی کبھی کبھی اسے فنا کر دیا جائے گا۔ اس کی قدرت سے جو شے پیدا کی جائے گی، وہ سب اللہ ہی کی قدرت سے ہے۔ تو اسے بے شمار بار پڑھا کریں، اس کی قیامت سے ہر شے کے لیے نیک اور برکت مند ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت کی تمام باتیں لکھی ہیں، اس لیے اسے روز بروز پڑھیں۔

أَنْتَ اللَّهُمَّ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لو
 حضرت میں آیات ہے۔ کچھ
 شخصیں سبحان اللہ والحمد
 للہ ولا الہ الا اللہ... الخ
 لیتے ہیں۔ تو دنیا اور اہل دنیا
 سب کے سب منقطع ہو جائیں
 گئے۔ مگر اس کے لئے داسے
 کا ثواب کبھی منقطع نہیں ہوگا۔
 غیر الموائس ترجمہ اللہ
 ترجمہ الموائس جلد اول
 # ۱۳۵۲

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے
 وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اور نہیں طاقت اور نہ قوت مگر اللہ عظمت دالے

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَدَدَ مَا فِي
 (کی توسیع) کے ساتھ شمار اس چیز کا جو اللہ

عِلْمِ اللَّهِ وَدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ ۳ بار
 کے علم میں ہے اور ہمیشگی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی

لو
 حضرت ابو اسرار نے
 آدم علیہ السلام سے یہ
 پڑھا کرتے تھے۔
 سبحان الخالق
 الباری
 جو شخص اس شیخ کو
 اس مرتبہ پڑھے گا اللہ
 تبارک و تعالیٰ اسے وہ
 عظیم و عظیم جزئیات میں
 کرے گا جنہیں آنکھوں نے
 دیکھا نہ کانوں نے سنا
 کسی آدمی کے دل میں آکر
 کاغذ پر لکھ کر اور پڑھے
 غیر الموائس اور ترجمہ
 ترجمہ الموائس
 # ۱۳۵۲ - ۹

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے
 وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 اور نہیں کوئی معبود سوا ہے اللہ کے اور اللہ بہت بڑا ہے

وَتَبَارَكَ اللَّهُ ۳ بار
 اور اللہ بڑی برکت والا ہے

حضرت آدم علیہ السلام کی تسبیح

سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْبَارِي سُبْحَانَ
 پاک ہے پیدا کرنے والا بنانے والا پاک ہے

اللَّهُ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ۱۰ بار
 اللہ عظمت والا اور تعریف اس کے لئے ہے

تو ان میں ایک زینت تھا کہ
 اپنے بازوؤں کے نیچے رہا کرتا
 ہے۔ اور سیدھا آسمان پر
 پہنچتا ہے۔ پھر اس آرزوؤں کی
 جان سماعت پر آتا ہے۔ وہاں
 پاکیزگی کے لئے دیکھنے کی
 زینت (شیش) کی درمیان میں
 جیسا آسمان پر پہنچتا ہے۔
 داسے آسمان پر پہنچتا ہے
 کو خواب الہی کے لئے
 (اس میں کوئی شک نہیں ہے)
 صحیح الاسانین یا ہے (غیر الموائس)
 ترجمہ الموائس جلد اول
 # ۱۳۵۲



لو
 تو ایسا خوب رسول اللہ
 علیہ السلام نے کہ جب بندہ
 سبحان اللہ... الخ
 الحمد للہ... الخ
 # ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدْرِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْرِ خَلْقِكَ وَرَضَىٰ نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسبیح

سُورَةُ الْأَخْلَاصِ

سُبْحَانَ مَنْ هُوَ بَاقٍ لَا يَفْتَى

وہ ذات پاک ہے جو باقی ہے۔ جسے فنا نہیں

سُبْحَانَ مَنْ هُوَ عَالِمٌ لَا يَسْتَى

وہ ذات پاک ہے جو جاننے والا ہے۔ سمجھتا نہیں

سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَيُّومٌ لَا يَنَامُ سُبْحَانَ

پاک ہے وہ ذات جو قیوم ہے سوتا نہیں پاک ہے وہ

مَنْ هُوَ دَائِمٌ لَا يَسْهُو سُبْحَانَ

جو ہمیشہ ہے، غافل نہیں ہوتا، وہ ذات پاک

مَنْ هُوَ وَاسِعٌ لَا يَتَكَلَّفُ سُبْحَانَ

ہے جو فراخی والا ہے تکلیف نہیں دیتا، وہ پاک ہے جو

مَنْ هُوَ قَائِمٌ لَا يَلْهُو سُبْحَانَ مَنْ

قائم ہے، نا سسل نہیں، وہ پاک ہے جو

هُوَ عَالِمٌ لَا يُضَامُ

عالم ہے، جس پر کسی قسم کا جبر نہیں ہو سکتا

۳ بار

تنہا نہیں پڑھے گا۔ اللہ
 تبارک کے لئے کیا ہوگا
 اس کے اعمال کے ذریعے
 بندگی کی۔ اور یہ کہ اس کی
 ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
 کہ اور یہ کہ کلمات کی تکرار
 اس کے لئے بہت ہی مفید ہے۔
 ہر ایک لفظ سے کلمات عظیم
 نکلتے ہیں۔
 شریک اللہ سے نہیں ہر اللہ
 کے لئے ہے۔
 ۱۴۵۵ھ ۱۰ ج ۱۹

حضرت ابن عباس نے
 کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات
 کو کئی طرح سے پڑھا اور
 فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 یہ کلمات بہت ہی نیک اور
 مبارک ہیں۔

یہ دعا فرمائی کہ
 میں اس کی مدد سے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کی دعا پڑھتا ہوں اور اس کی
 دعا قبول فرمائی۔

رَبَّنَا
 تَقَاتِلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي! اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسبیح

سُبْحَانَ مَنْ هُوَ مُطَّلَعٌ بِعِلْمٍ

پاک ہے وہ اچھو دونوں کے اعمال کو جانتے والا

جَوَارِحِ الْقُلُوبِ سُبْحَانَ مَنْ

پاک ہے وہ ذات کہ

يُحْصِي عَدَدَ الذُّنُوبِ سُبْحَانَ

گنتیوں کی گنتی کا جس کو شمار ہے پاک ہے وہ ذات

مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي

کہ جس پر آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَ

نہیں ہے پاک ہے اللہ

اللَّهُ الرَّؤُوفُ الْوَدُودُ

رحم کرنے والا محبت کرنے والا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسبیح

سُبْحَانَ مَنْ هُوَ فِي عُلُوِّهِ دَانٌ

وہ پاک ہے جس کی بلندیا میں قرب ہے

وَفِي دُنُوِّهِ حَالٌ وَفِي إِشْرَاقِهِ

اور اس کے قرب میں حال ہے اور اس کی بچھ میں روشنی



حضرت ابوالسعدات کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسبیح میں صحت سبوحان سے صحت مطلع اور شخصی ان حالت طیبات کو ایک دفتر کے کار اندر سجنا اس کے لئے لاکھ تکبیریں کہنے کا اور لاکھ تبرکات اور کربلا اور لاکھ درجے بند کر کے اور لاکھ خیر الموائس اور خیر الموائس مسجدوں میں ۹۷۲ بار

حضرت ابوالسعدات کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسبیح میں صحت سبوحان سے صحت مطلع اور شخصی ان حالت طیبات کو ایک دفتر کے کار اندر سجنا اس کے لئے لاکھ تکبیریں کہنے کا اور لاکھ درجے بند کر کے اور لاکھ خیر الموائس اور خیر الموائس مسجدوں میں ۹۷۲ بار

۲۳۵
 بقرہ ۱۱۱
 خیر الموائس اور خیر الموائس
 صفحہ ۹۷
 ۱۳۵۲ھ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترتهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا أَيُّهَا اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ۝

مُنِيرٌ وَفِي سُلْطَانِهِ قُوَّةٌ ۱۰ بار

ہے اور غلبہ میں طاقت ہے -

حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح

سُبْحَانَ الْقَاضِي الْأَكْبَرِ سُبْحَانَ

پاک ہے نبی بھنے کرنے والا بہت بڑا پاک ہے

الْمَخْلُقِ الْبَارِي سُبْحَانَ الْقَادِرِ

پیدا کرنے والا بنانے والا پاک ہے ہر چیز پہ قدرت

الْمُقْتَدِرِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اور اقتدار والا پاک ہے اللہ عظمت والا اور

وَبِحَمْدِهِ ۳ بار

اسی کی تعریف ہے۔

۱۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح
 علیہ السلام اور اس کی تسبیح
 حضرت ابو القاسم الاکبری نے
 جو شخص اس تسبیح کو سرون
 کیا وہ دنیا کی تمام دولتوں سے
 زیادہ عزیز ہے۔
 اس کی حفاظت کرنے کا جو اسے
 فریضے سے مبرا کرنے کے لیے
 ضروری ہے اور اگر اس نے
 اس کی طرف سے کسی چیز کو
 آلودہ کیا تو اس کی طرف سے
 ایک سال تک اس کی طرف سے
 جو بیعتیں لگائی گئی ہیں
 اسی کے منوں میں گئی ہیں۔
 کہ یہ ابو القاسم اور اس کی
 تفسیر ہے۔
 اور اگر اس کا علم ہے
 میرا اور اس
 تفسیر اور اس کی تفسیر
 تفسیر اور اس کی تفسیر
 تفسیر اور اس کی تفسیر



۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَتِهِ
 بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْقَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

جب کوئی مصیبت آئے یا بادشاہ کے ظلم سے
 ڈرو، یا جانور گم ہو جائے

وضو کرو

نفل

۲ رکعت

۱ بار

اللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ سب سے بڑا ہے

۳ بار

اسْتَغْفِرُ اللَّهَ

بخوش ہانکتا ہوں میں اللہ سے

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ

اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے اور تجھ سے سلامتی

السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ

ہل سکتی ہے بڑی برکت والا ہے تو اے بزرگی اور

۱ بار

وَأَزْكَرَامِ

عزت والے

پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہو :-

حضرت بابر بن تیمور نے کہا حضور اقدس واکل
 جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ
 الطیب و الطہر علی المرتضیٰ
 وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ
 کرم اللہ وجہہ اور حضرت
 فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما
 کو دعا کا کھانہ اور دنیا
 جیہ تم کوئی مصیبت آئے
 یا تم دونوں باریک دیکھو
 یا تم سے ڈرو یا تمہارا جانور
 گم ہو جائے تو چھ پران
 وضو کرو اور آسمان کی طرف
 ہاتھ اٹھا کر کہو :-
 اے اللہ صلی اللہ علیہ و
 آلیہ وسلم یا صاحب الغیب و
 المسابین
 پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں
 یا گو :- توبل کی بارگاہیگی
 ایش رائتہ -
 غنیۃ الطالبین
 صفحہ ۵۸ - مطبع صدیقی
 واقع لاہور - ۱۳۲۳ھ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَوَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالسَّرَائِرِ

اسے غیب اور پوشیدہ باتوں کے جاننے والے

يَا مُطَاعٌ يَا عَزِيزٌ يَا عَلِيمٌ يَا اللَّهُ

یا مطاع! یا عزیز! یا علیم! یا اللہ!

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا هَا زِمَ الْأَحْزَابِ

یا اللہ! یا اللہ! اسے شکست دینے والے (کفار کے)

لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کردہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

يَا كَايِدَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى عَلَيْهِ

اسے فرعون کے لاق کی تدبیر کرنے والے موسیٰ علیہ السلام

السَّلَامِ يَا مَنِيَّ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

کے لئے اسے عیسیٰ علیہ السلام کو ظالموں کے ہتھکڑے سے

مِنْ يَدِ ظَلَمَةٍ يَا مُخْلِصَ قَوْمِ نُوحٍ

نجات دینے والے اسے قوم نوح کو غرقابی سے

مِنَ الْغُرُقِ يَا رَاحِمَ عَبْرَةَ

غلامی دینے والے اسے یعقوب علیہ السلام کے آنسوؤں

يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا كَاشِفَ

پھر رحم کرنے والے اسے ایوب علیہ السلام

ضُرِّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا مُنْجِيَّ

کی بیماری کو دور کرنے والے اسے یونس علیہ السلام

ذِي النَّوْنِ مِنَ الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ

کو تین اندھیروں سے نجات دینے والے

يَا فَاعِلَ كُلِّ خَيْرٍ يَا هَادِيَنَا إِلَى

اسے ہر بھلائی کرنے والے اسے ہمارے ہر خیر کی طرف

رَبَّنَا
 تَقَاتِلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَلِمَةَ اسْتَعْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَالِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

كُلِّ خَيْرٍ يَا دَلِيلَ عَلَيَّ كُلِّ خَيْرٍ

ہر ایت کرنے والے سے ہر عیب کی طرف راہنمائی کرے

يَا أَهْلَ الْخَيْرِ يَا خَالِقَ الْخَيْرِ

اے خیر والے اے خیر کے پیدا کرنے والے

يَا أَهْلَ الْخَيْرَاتِ أَنْتَ اللَّهُ رَغِبْتُ

اے خیرات والے تو اللہ ہے میں نے تیری طرف

إِلَيْكَ فِيمَا قَدْ عَلِمْتُ وَأَنْتَ

رغبت کی اس چیز میں کہ جانتا ہوں اور تو شیوں

عَلَامُ الْغُيُوبِ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ

کا جاننے والا ہے اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کہ

عَلَى مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَبَا

تو درود بھیج محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مَنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدْوِكَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَبِنُورِ

اے اللہ! میں میری پناہ چاہتا ہوں اور تیرے پاک

قُدْسِكَ وَعَظْمَةِ طَهَارَتِكَ

توہ اور تیری پاک بزرگی اور تیرے

وَبَرَكَاتِ جَلَالِكَ مِنْ كُلِّ

جلال کی برکتوں کے ذریعہ ہر ایک

أَفَةٍ وَعَاهَةِ وَطَارِقِ الْجِنِّ

آفت اور رنج اور جڑوں اور انسانوں کی بلا سے امن

وَالْإِنْسِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ مِنْكَ

چاہتا ہوں اور تیری طرف سے آنے والی خیر سے

بِخَيْرِ أُنْتَكِ أَنْتَ عِيَاذِي فِيكَ

(راہی ہوں) ہر حال میں میری پناہ تو ہی ہے میں تجھ

أَعُوذُ وَأَنْتَ مَلَاذِي وَبِكَ الْوُدُّ

سے ہی پناہ مانگتا ہوں اور تو ہی میری جائے امن و پناہ ہے

وَيَا مَنْ ذَلَّتْ لَهُ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ

اسے وہ ذات کہ جس کے آگے سرکشوں کی گردنیں خم ہیں

وَجُمِعَتْ لَهُ مَقَالِيدُ الرِّعَايَةِ

اور غوار و ذلیل ہیں اور جمع ہیں اس کے پاس کنجیاں مخلوقات کی

أَعُوذُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَكَرَمِ

حفاظت کی اور میں تیری ذات کے جلال کے طفیل تجھ سے ہی پناہ

جَلَالِكَ مِنْ خَزْيِكَ وَكُشْفِ

ہنگاموں اور پناہ مانگتا ہوں تیرے بزرگ کریم کی تیری رسوائی سے اور پردہ کھل

لے
 دوسری دعا۔ اوردہ
 حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 الطہر صلی اللہ علیہ وسلم
 کا دعا تھی۔ اذکار کے دن
 اس کو حضرت ابن مسعود
 نے حضور انور صلی اللہ
 علیہ وسلم سے روایت کیا۔
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 و بنور قُدْسِكَ ... الخ

فقیہ الطب لیبین
 صفحہ ۸۳ / ۵۸۲
 مطبع صوفیہ دار الفکر لاہور
 ۱۳۳۳ھ

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ دُخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَالِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ۝

سِتْرِكَ وَنِسْيَانِ ذِكْرِكَ وَ

جانے اور تیری یاد کے بھول جانے سے اور تیرے

الْأَنْصِرَانِ عَنْ شُكْرِكَ أَنَا فِي

شکر سے پھر جانے سے میں تیری

كُنْفِكَ فِي لَيْلِي وَنَهَارِي وَنَوْحِي

سہرگی میں ہوں رات میں اور دن میں نیند میں

وَقَرَارِي وَطَعْنِي وَأَسْفَارِي ذِكْرِكَ

اور آرام میں اور کوچ اور سفر میں تیرا ذکر میرا

شِعَارِي وَتَنَاءُكَ دِتَارِي لَا إِلَهَ

شعار ہو اور تیرا ثنا میرا لباس ہو تیرے سوا

إِلَّا أَنْتَ تَنْزِيهَا لِاسْمِكَ وَتَكْرِيماً

کوئی مہبود نہیں میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیرے نام کی

لِسُبْحَاتٍ وَجْهَكَ أَجْرُنِي مِنْ خَيْرِكَ

اور تکریم کرتا ہوں تیری ذات کے انوار کی پناہ دے مجھے اپنی

وَمِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَعِبَادِكَ وَ

رسوائی سے اور اپنے عذاب کے شر سے اور اپنے بندوں کے شر سے

أَضْرِبْ عَلَيَّ سَرَادِقَاتِ حِفْظِكَ

اور مجھ پر اپنی حفاظت کے نیچے گاڑ دے اور

وَأُدْخِلْنِي فِي حِفْظِ عَنَابَتِكَ وَقَبِي

داحسں کر مجھے اپنی مہربانی کی حفاظت میں اور بچا مجھے

سَيِّئَاتِ عَذَابِكَ وَأَغْنِنِي بِخَيْرِ مَنْكَ

اپنے برے عذاب سے اور اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ مجھے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ابار نیکی سے سنی کر دے۔ اسے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ وَخَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَبِيرُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

يَا كَبِيرُ كُلِّ كَبِيرٍ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ

اسے سب بزرگوں کے بزرگ اسے سنیے دالے اسے دیکھنے

يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ يَا

دالے لے وہ ذات کہ اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی وزیر ہے

خَالِقِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُبِيرِ يَا

اسے سورج اور قمر میر کے پیدا کرنے دالے اسے مصیبت زدہ

عَضْمَةِ الْبَائِسِ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ

خائف، اپناہ کے طالب کی حفاظت کرنے دالے اسے

يَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ يَا جَابِرَ

چھوٹے (شیرخوار) بچے کو رزق دینے دالے اسے سکتے

الْعَظْمِ الْكَسِيرِ يَا قَاصِمَ كُلِّ

ہڈیوں کے جوڑنے دالے اسے ہر سرکش ظالم کو ہلاک کر دینے

جَبَّارٍ عَنَيْدٍ أَسْأَلُكَ وَأَدْعُوكَ

دالے میں تیری بارگاہ میں پریشان حال

دُعَاءِ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ دُعَاءِ

فقیر اور بے قرار عاجز (ناہیا) کی اشد دعا اور سوال

الْمُضْطَّرِّ الضَّرِيرِ أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ

کرتا ہوں (اور) تجھ سے تیرے عرش کے

الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمَفَاتِيحِ الرَّحْمَةِ

مقام عزت کے طفیل اور رحمت کی کنجیوں کے واسطے سے

مِنْ كِتَابِكَ وَيَا لَأَسْمَاءِ الثَّمَانِيَةِ

جو تیری کتاب میں ہیں اور ان آٹھ اسماء کے ذریعہ

الْمَكْتُوبَةِ عَلَى قُرْنِ الشَّمْسِ أَنْ تَفْعَلَ

جو آفتاب پر لکھے ہوئے ہیں سوال کرتا ہوں کہ

بِئِي كَذَا وَ كَذَا ابَار

اور

حضرت ابو بصیر نے
 حضرت ابو بصیر نے روایت کی کہ حضرت
 جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
 اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ
 تعالیٰ نے سلام دیا ہے اور
 فرمایا ہے دعا کی ہے
 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 اس کے ساتھ دعا کریں
 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 اور کہا کہ دعا قبول کرے
 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے
 پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو دعا فرماتا ہوں
 کہ حضور انیس صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جبرائیل علیہ السلام نے کہا
 یا کبیر...
 یا بصیر...
 فقیر الطالبن
 صفحہ ۵۸۴
 مطبع صدیقی -
 لاہور ۱۳۴۳ھ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

حرزِ سبملہ شریف

سُبْحَانَكَ يَا عَزِيزُ الْعَظِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ

اسے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے ساتھ اور

بِحُرْمَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی حرمت کے ساتھ اور

بِفَضْلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کے فضل کے ساتھ اور

بِعَظَمَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی عظمت کے ساتھ اور

بِجَلَالِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کے جلال (بزرگی) کے ساتھ اور

رَبَّنَا
 تَقَاتِلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي الْقِيَوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بِحَمَالِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کے جمال کے وسیلہ سے اور

بِكَمَالِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کے کمال کے وسیلہ سے اور

بِهِيْبَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی ہیبت کے وسیلہ سے اور

بِمَنْزِلَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کے مرتبہ کے ذریعہ اور

بِمَلَكُوتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی سلطنت کے ذریعہ سے اور

بِحَبْرَتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی شوکت (دہجہ) کے ذریعہ سے اور

بِكِبْرِيَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی بڑائی کے ذریعہ سے اور

بِثَنَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی ثنا کے ذریعہ سے اور

بِبَهَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی روشنی کے ذریعہ سے اور

بِكِرَامَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی کرامت کے ذریعہ سے اور

بِسُلْطَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کے ولی کے ذریعہ سے اور

بِبَرَكَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی برکت کے ذریعہ سے اور

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْقِ عَرْشِكَ وَوَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بِعِزَّةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی عزت کے ذریعے اور

بِقُوَّةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی طاقت کے ذریعے اور

بِقُدْرَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

(سوال کرتا ہوں) بسم اللہ کی قدرت کے ذریعے اور

ارْفَعُ قَدْرِي وَاشْرَحْ صَدْرِي وَ

میرا مرتبہ بلند کر دے اور میرا سینہ کھول دے اور

بَسِّرْ أَمْرِي وَارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ لَا

میرے لئے کاموں کو آسان کر دے اور اپنے فضل و کرم

أَحْتَسِبُ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا مَنْ

سے مجھے ایسی جگہ سے رزق دے کہ (اس کا) گمان بھی نہ ہو اسے وہ

هُوَ كَهَيْعِصَ حَمِصٍ وَاسْتَسْقِ وَأَسْأَلُكَ

ذات جو کھلیعص (اور) حمص سے ہے اور میں تجھ سے

بِجَلَالِ الْعِزَّةِ وَجَلَالِ الْهَيْبَةِ

ماگتا ہوں تیری بزرگی کی عزت کے واسطے اور تیری ہیبت کی بزرگی

وَجَبْرُوتِ الْعِظَمَةِ أَنْ تَجْعَلَنِي

کے واسطے اور تیری عظمت کے دہرے کے واسطے کہ تو بنا دے مجھے

مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ○ الَّذِينَ

اپنے نیک بندوں میں سے (وہ نیک) لوگ

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○

تیری رحمت سے اسے رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى فَسْكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَرِمَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَفْعَلُ

اور ہمارے سردار حضرت محمد کی آل پر (اور کوس بیس)

لِيُكَذِّبَ كَذِبًا وَأَحْسِنُ

تے ایسا ایسا (اور ہمارا عاقبت

عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَ

بجیر کر تمام امور میں اور بجا

أَجْرُنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ

ہم کو دنیا کی ذلت سے اور آخرت کے عذاب سے

الْآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اپنی رحمت کے ساتھ اسے رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ تُوَكَّلُ

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جس نے تجھ پر ہمدرد

عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ وَأَسْتَهْدَاكَ

کیا۔ اور تو نے اس کی کفایت کی اور تجھ سے ہدایت طلب

فَهَدَيْتَهُ وَأَسْتَنْصِرَكَ فَصَرَّتْهُ أَبَا

کی تو نے اسے ہدایت دی اور تجھ سے مدد طلب کی تو نے اسکی مدد کی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس طرح کہا کرتے تھے کہ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ تُوَكَّلُ
 فَكَفَيْتَهُ وَأَسْتَهْدَاكَ
 فَهَدَيْتَهُ وَأَسْتَنْصِرَكَ
 فَصَرَّتْهُ أَبَا
 ۳۰۸
 شمارہ ۵/۱۵

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنْكَ
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا أَلْحَى اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

فہرست عنوان و مطالب کتاب العمل بالسنة المعروفة بترتیب شریف حصہ چہارم

صفحہ	عنوان و مطالب	نمبر شمار
	الادعية غير مخصوصة بلا وقت ولا سبب (بغیر کسی وقت اور سبب کے پڑھنے والی دعائیں)	
۶۰۵	المغرب (مغرب کے بعد پڑھی جانے والی مختلف دعائیں)	۷۰۰
۶۲۵	العشاء (عشاء کے بعد پڑھی جانے والی مختلف دعائیں)	۷۰۱
۶۳۳	التہجد (تہجد کے بعد پڑھی جانے والی مختلف دعائیں)	۷۰۲
۶۴۳	حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا	۷۰۳
۶۴۵	الفجر (فجر کے بعد پڑھی جانے والی مختلف دعائیں)	۷۰۴
۶۵۳	الاشراق (اشراق کے بعد پڑھی جانے والی مختلف دعائیں)	۷۰۵
۶۵۹	الضحیٰ (ضحیٰ کے بعد پڑھی جانے والی مختلف دعائیں)	۷۰۶
۶۷۲	الزوال (زوال کے بعد پڑھی جانے والی مختلف دعائیں)	۷۰۷
۶۸۷	الظہر (ظہر کے بعد پڑھی جانے والی مختلف دعائیں)	۷۰۸
۷۰۱	العصر (عصر کے بعد پڑھی جانے والی مختلف دعائیں)	۷۰۹



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ حَلْفِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

صفحہ	عنوان و مطالب	نمبر شمارہ
۷۳۲	حضرت امام موسیٰ بن جعفر رضی کی دعا جو انہیں قید خانہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی	۷۱۰
۷۳۵	حضرت آدم علیہ السلام کی تسبیح	۷۱۱
۷۳۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسبیح	۷۱۲
۷۳۷	حضرت اسمعیل " " "	۷۱۳
"	حضرت موسیٰ " " "	۷۱۴
۷۳۸	حضرت یونس " " "	۷۱۵
۷۳۹	جب کوئی مصیبت آئے یا بادشاہ کے ظلم سے ڈرو یا جانور گم ہو جائے	۷۱۶
۷۴۵	حزب سمدہ شریف	۷۱۷

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ